

میری سہولت
میری منزل میری کام

مریم عزیز

پاک سوشلائٹی ڈاٹ کام

وہ جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا کیوں کہ نادیا اس کی پیسٹ فرینڈ تھی، ایک دوسرے کے دن رات کی خبر ہوتی تھی اور یہ پروپوزل اسے تو قطعی اس کی خبر نہیں تھی۔
 ”چلیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔“
 ”اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔“ وہ اس کا ساتھ چلنے کا سن کر خوش ہو گئے تھے۔



”ارے آج تو کچھ ہاشنا چاہیے ہماری بیٹی آئی ہے۔“
 اسے دیکھ کر حمید اللہ انکل بڑے بے ساختہ انداز میں بولے تھے کیوں کہ اتنے مراسم ہونے کے باوجود وہ بہت کم ان کے گھر جاتی تھی، زیادہ تر نادیا ہی اس کے پاس آتی تھی۔ وہ کچھ دیر تو نادیا کی بہنوں کے ساتھ باتیں کرتی رہی لیکن جب کافی دیر تک نادیا کی آمد کے آثار دکھائی نہ دیے تو وہ خود اٹھ کر نادیا کے کمرے کی طرف چل دی۔
 دروازہ کھولتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نادیا پر پڑی جو آنکھیں بند کیے پتا نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے آنکھیں کھولیں اور جبہ

پودوں کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی گنگناہٹ بھی جاری تھی جبکہ برآمدے میں بیٹھے منظور صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد اخبار سے نظر ہٹا کر اسے بھی دیکھ لیتے تھے اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی گہری ہوتی جاتی تھی۔ نل بند کر کے پائپ سمیٹ کر اس نے صحن میں دائپر لگایا اور اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی منظور صاحب کے پاس والی کرسی پر آکر بیٹھ گئی۔ وہ اخبار میز پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔

”آپ کہیں جا رہے ہیں؟“ وہ موبائل اسکرین پر نظریں جمائے مصروف انداز میں بولی۔
 ”ہاں سوچ رہا ہوں حمید اللہ کی طرف چکر لگاؤں صبح سے اس کے دونوں آچکے ہیں۔“
 ”پاپا روزانہ ہی تو آپ انکل سے ملتے ہیں کم از کم سنڈے کو تو رہنے دیں۔“ اس نے کہتے ہوئے افسوس سے موبائل اسکرین کو دیکھا اس کا کیم دوسرے راؤنڈ میں ہی ختم ہو گیا تھا۔
 ”مجبوری ہے بیٹا! اس کو کچھ مشورہ کرنا تھا، نادیا کا کوئی پروپوزل آیا ہے۔“
 ”ہیں! اب کی بار اس نے موبائل بند کر دیا۔“ کب

مکمل ناول

Downloaded From
 Paksociety.com

READING
 Section

ر نظر بڑتے ہی وہ تیزی سے بید سے اتری اور اس کے گلے لگ گئی۔

”تم کب آئیں مجھے پتا ہی نہیں چلا۔“ وہ اب اس سے الگ ہو کر پوچھ رہی تھی۔

”مجھے تو آئے ہوئے آدھ گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تمہیں ہی توفیق نہیں ہوئی کہ کمرے سے باہر جھانک لو۔“

”مجھے لگا ابو کے مہمان ہیں۔“

”تمہارا کوئی پروپوزل آیا ہے؟“ کچھ بھی سخت ست کہنے سے پہلے اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا تھا۔

”ہاں۔“

”خمرہ کا۔“ نادیہ کا سر نفی میں ہلا تھا۔

”تو پھر؟“ خبہ حیران ہوئی۔

”پھوپھو تبسم کے بیٹے کا۔“

”دوسرے؟“ خبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن اس کے برعکس نادیہ کا چہرہ سیاٹ تھا۔

”یقیناً“ انکل نے انکار کر دیا ہو گا؟“ اس کے پر یقین انداز پر نادیہ کا سر نفی میں ہلا۔

”تو تم نے منع کر دیا؟“

”مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔“

”کیا مطلب پوچھا ہی نہیں۔ شادی تمہیں کرنی ہے اور تم سے ہی نہیں پوچھا۔“ خبہ کو برا لگا تھا۔

”میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں تو انہوں نے پہلے تو مجھے کافی باتیں سنائیں پھر یہ کہہ کر چلی گئیں جو پسند ہے اپنے باپ کو بتا دو۔“

”ہاں تو ٹھیک ہے تا تم انکل کو بتا دو۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔“

”یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو جس طرح تم انکل سے فرینک ہو، ان سے ہر بات کر لیتی ہو، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم جانتی ہو ہم تینوں بہنیں شروع سے ہی ابو سے کتنا ڈرتی ہیں اور امی سے بات کی تو انہوں نے بھی یوں ری ایکٹ کیا جیسے میں نے پتا نہیں کتنا بڑا گناہ کر دیا ہو۔“

اب کی بار وہ ضبط کھو بیٹھی تھی خبہ کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی لیکن جب اس کا رونا بند نہیں ہوا تو اسے بولنا پڑا۔

”نادیہ پلیز۔ تم رونا بند کرو۔“ کہتے کے ساتھ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔

”اگر تم کہو تو میں پاپا سے بات کروں، وہ انکل کو سمجھائیں۔“ نادیہ نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔

”کوئی فائدہ نہیں۔ میں جانتی ہوں اپنے گھر والوں کو اگر انکل نے ابو سے بات کی تو وہ اسے اتنا کا مسئلہ بنالیں گے اور ضد میں میری شادی وہیں کریں گے اور میں بے حیا، بے شرم کہلائی جاؤں گی وہ الگ۔“ خبہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن یہ بات اس کی نہیں نادیہ کی ہو رہی تھی اور نادیہ اپنی جگہ سچ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی۔

”تم نے خضر کو بتایا؟“

”نہیں۔ کیا فائدہ کچھ ہونا تو ہے نہیں۔“

نادیہ کے مایوس لہجے پر اسے غصہ آ گیا تھا۔

”تم پہلے سے ہی سب فرض کر کے بیٹھ گئی ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمت ہونی چاہیے۔“

اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی نادیہ کی چھوٹی بہن اندر آ گئی تھی۔

”باجی کھانا لگ گیا ہے۔ امی آپ دونوں کو بلا رہی ہیں۔“

”تم جاؤ خبہ! مجھے بھوک نہیں۔“

”تمہاری ناراضی اپنے گھر والوں سے ہے اب کم از کم میرے لیے چلو اور کھانا کھاؤ اٹھو شاباش۔“ خبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔



”پاپا دودھ۔“ وہ گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔

”کیا کوئی بات کرنی ہے۔“ اس کے یوں فرصت سے بیٹھنے پر انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے کتاب بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور عینک اتار کر بغور اسے دیکھنے لگے تو ان کے اتنے سچ اندازے پر اپنی جھینپ مٹانے کے لیے اس نے دودھ کا گلاس ان کے آگے کر دیا۔

”انکل نے جس پروپوزل کا مشورہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا بات ہوئی۔“

”ہاں حمید اللہ کی بہن کا بیٹا ہے۔“

”تو آپ نے کیا کہا انہیں؟“ اس کے سوال پر انہوں نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔

”مجھے کیا کہنا تھا۔ وہ اس کی بہن کا بیٹا ہے ان کا دیکھا بھالا ہے اور کیا چاہیے۔“

”پاپا! جب بھینجا کر بولی۔ کسی پروپونز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ کون سا فارمولا ہے ”اپنے ہیں۔“ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔

”مجھے تو انکل کی سمجھ میں نہیں آتی یہی سب کرنا تھا تو بیٹیوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔ پہلے ان کو شعور دلاتے ہیں اور جب اس شعور کو استعمال کرنے کا موقع آتا ہے تو والدین چاہتے ہیں داغ اور آنکھیں بند کر لو اور جس کنوس میں ہم دھکا دے رہے ہیں اس میں آنکھیں بند کر کے کود جاؤ۔“

اس کے اتنے غصیلے اور ناراض انداز پر منظور صاحب نے گلاس واپس رکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔

”اپنوں میں شادی کرنا اندھا کنواں کیسے ہو گیا؟“

”پاپا! انکل یہ نہیں دیکھ رہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے نادیا ایم اے کر رہی ہے اور وہ ایف اے کوئی جاب نہیں کرتا۔ اسٹور ہے اس کے فادر کا جس میں اس کے دو بھائی اور حق دار ہوں گے دو بہنوں کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں کیا فیوچر ہو گا نادیا کا۔“

”کیا ماں باپ سے زیادہ کوئی اولاد کا بھلا سوچ سکتا ہے؟“

یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔

”جہاں تک تعلیم کی بات ہے۔ تعلیم بہت میٹر کرتی ہے لیکن ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو بیوی کو عزت نہ دے اور نہ کروا سکے اور رہی دولت تو وہ عورت کا نصیب ہوتی ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں اکثر جھونپروں والی محلوں میں اور محلوں والیاں جھونپروں میں پہنچ جاتی ہیں۔“

”ہو سکتا ہے آپ کی یہ باتیں ٹھیک ہوں لیکن شادی کے لیے میرا نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ شادی کے لیے کو ایفائیڈ اور امیر ہونا بہت ضروری ہے اور گڈ لکنگ تو مسٹ ہے۔“ اس کے انگلیوں پر گنوانے پر منظور صاحب ہنس پڑے تھے۔

”پاپا! آپ انکل کو سمجھا میں کہ وہ یہ رشتہ نہ کریں۔“

”جبہ! کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو میں کیسے منع کر سکتا ہوں اور کس بنیاد پر۔“

”پاپا یہ جو میں نے آپ کو اتنے ریزن دیے ہیں ان کا کیا؟“

”وہ سب بچکانہ ہیں۔“ جب خاموش ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔

”اگر میں کہوں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو۔“ منظور صاحب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں جو کہنے کے بعد اب نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جمائے بیٹھی تھی۔

”کون ہے وہ؟“

”ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے مسیئر ہے ہم سے نادیا کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔“

”اور نادیا؟“

”جی وہ بھی، لیکن انکل سے بات نہیں کر سکتی اسے لگتا ہے۔ انکل نہیں مانیں گے اور اس کی جو بے عزتی ہوگی وہ الگ۔“

”ٹھیک کہتی ہے وہ۔“

”لیکن پاپا! یہ کوئی حل نہیں شادی خوشی کا دسرا نام ہے اور وہ خوش نہیں۔ آپ پلزز انکل سے بات کریں۔“

اب کی بار وہ کچھ بولے نہیں، لیکن سوچ کی پرچھائیاں ان کے چہرے پر واضح تھیں۔

”اگر وہ لڑکا واقعی مخلص ہے تو اس سے کہو اپنا رشتہ بھیجے۔“ کہہ کر وہ لیٹ گئے تھے۔



”انکل میں نے پاپا سے بات کی تھی تمہارے بارے میں۔“ جب نے چپس کھاتے ہوئے نادیا کو دیکھا جو بے دلی سے اسٹرا گلاس میں کھارہی تھی۔

”میں نے انہیں حمزہ کے بارے میں بتا دیا۔“ نادیا کی ساری بے دلی ہوا ہو گئی تھی اس نے پوری آنکھیں کھول کر جبہ کو گھورا جو شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھی۔

”تم نے انکل کو حمزہ کے بارے میں بتا دیا وہ میرے خدا! کیا سوچتے ہوں گے وہ میرے بارے میں اور اگر انہوں نے ابو سے کچھ کہہ دیا تو۔“ نادیا کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔

جبہ نے کولڈ ڈرنک کا لبا سا گھونٹ پی کر اسے دیکھا۔

”پاپا ایسا کچھ نہیں کریں گے اور تم تو ایسے مر رہی ہو جیسے میں نے تم پر پتا نہیں کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہو۔ کیا تم حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتیں؟“

پاپا نے کہا ہے سے کہو اپنا پروپونز بھیجے پھر وہ کچھ کر سکیں گے۔“

”حمزہ تو یونیورسٹی نہیں آ رہا اور شاید آئے بھی نہ کیونکہ

ہوئے ہی وہ اصراراً کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر منظور صاحب پہلے چونکے اور پھر مسکرا کر مصافحہ کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔

”ہاں بھئی برخوردار پڑھائی کیسی جارہی ہے؟“
 ”فرسٹ کلاس انکل۔ آج لاسٹ پیر تھا۔ ہوسٹل بھی بند ہو رہا تھا۔ کل گھر جا رہا تھا۔ سوچا آپ سے اور حبیہ سے ملتا ہوا جاؤں۔“

”بہت اچھا کیا اور تمہاری امی اور بہن کیسی ہیں۔؟“
 ”کل امی سے بات ہوئی تھی۔ سب خیریت ہے۔ آپ کو سلام کہہ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں۔ آپ کو فون کریں گی، انہیں آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔“ منظور صاحب نے ابھی نظر سے تابش کو دیکھا اور تب ہی ان کی نظر اندر آتی حبیہ پر پڑی تو وہ سر جھٹک کر بات بدل گئے۔

”بیٹا! تابش کو کچھ کھلایا بھی ہے یا بھوکا ہی بیٹھا رکھا ہے۔“

”یابا! میں نے تو کہا تھا کھانا لگا دوں لیکن اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کھائے گا۔“

”چلو یہ تو اچھا ہے۔ تم کھانا لگواؤ۔ میں چیخ کر کے آتا ہوں۔“ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے آئے تابش کرسی پر بیٹھا ان کا ہی منتظر تھا۔ ”واہ بھئی بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے۔“

”جی صاحب جی! بریانی بتائی ہے اور آپ کے لیے ٹنڈے کالی مرچ ڈال کر۔“ عظمیٰ کے کہنے پر ان کا منہ بن گیا جبکہ ان کا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں ہنس پڑے تھے ”بھئی عظمیٰ! ہمارے لیے بریانی اور انکل کے لیے ٹنڈے وہ بھی مرچ کے بغیر یہ سزا کیوں۔“ تابش نے ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر مصنوعی حیرت سے عظمیٰ کو دیکھا۔

”بابا جی کے کہنے پر۔“ اس باز پرس پر اس نے جلدی سے حبیہ کی طرف اشارہ کیا۔

”صحت دیکھی ہے پاپا کی کتنے ویک ہو گئے ہیں ڈاکٹر نے چکنائی اور مرغن کھانوں سے منع کیا ہے۔“

حبیہ کے کہنے پر اس نے غور سے منظور صاحب کی طرف دیکھا وہ واقعی اسے پہلے سے کمزور لگے تھے۔

”ڈاکٹر کو دکھایا ہے انکل! کیوں آپ کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے۔“ منظور صاحب نے ایک نظر تابش کو دیکھ کر حبیہ کو دیکھا جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی وہ

فائل پیپرز قریب ہیں تو تقریباً ”سب ہی گھر میں تیاری کر رہے ہیں۔“

”تمہیں کم از کم اسے اس پروپوزل کے بارے میں تو بتانا چاہیے تھا۔ خیر تم اسے میسج کر کے کہو تمہیں ملے۔ یہ بات آنے سے سانسے بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہے۔“ نادیا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔

”تمہارا مطلب ہے کہیں باہر؟“
 ”نہیں تو کیا تمہارے گھر آئے گا وہ اور اتنے دیدے بھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ انسان ہے کوئی آدم خور نہیں جو تمہیں کھا جائے گا۔“ نادیا نے برا سامنہ بنا کر اسٹرا ہونٹوں سے لگالی۔



دروازے کی بجتی گھنٹی اس کی نظر ایک پل کے لیے ٹی وی اسکرین سے ہٹی تھی۔ اور اگلے کچھ لمحوں میں تابش اندر داخل ہوا تھا۔

”السلام علیکم!“ اسے دیکھ کر حبیہ نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔

”کیسی ہو؟“ تمہارے سامنے ہوں۔ کیسی لگ رہی ہوں۔“ تابش نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کے دکتے چہرے کو دیکھا۔

”ہمیشہ کی طرح خوب صورت۔“ تابش کے کہنے پر اس نے ابرو اچکا کر اس تعریف کو حق کی طرح وصول کیا۔

”چائے پوگے یا کوئی ڈرنک لوگے؟“
 ”میں کھانا کھاؤں گا۔“ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر وہ

کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
 ”وہ بھئی ملے گا پہلے کچھ پی لویا ابھی کھانا لگوا دوں۔“

”کھانا انکل کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہاں ہیں وہ؟“
 ”بابا آنے والے ہوں گے۔“ حبیہ نے گھڑی کی طرف

دیکھ کر کہا جہاں شام کے چھنچ رہے تھے۔
 ”عظمیٰ! تابش بھائی کے لیے شربت لے آؤ۔“ حبیہ نے

دروازے کی طرف منہ کر کے کہا تب ہی دروازے کی دوبارہ گھنٹی بجی۔

”بابا آگئے۔“ اس نے تابش سے کہا جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹین اسپورٹس دیکھ رہا تھا اس کے کہنے پر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔

”السلام علیکم انکل!“ منظور صاحب کے اندر داخل

READING
Section

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

سوہنی ہیرائل

SOHNI HAIR OIL

- گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے
- بے ہال آگاتا ہے۔
- بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔
- مردوں، عورتوں اور بچوں کے لئے
- یکساں مفید۔
- ہر موسم میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔



قیمت - 120/- روپے

سوہنی ہیرائل 12 جلی بوتلوں کا مرکب ہے اور اس کی تیاری کے مراحل بہت مشکل ہیں لہذا یہ توڑی مقدار میں تیار ہوتا ہے، یہ بازار میں یا کسی دوسرے شہر میں دستیاب نہیں، کراچی میں دستی خرید جاسکتا ہے، ایک بوتل کی قیمت صرف - 120/- روپے ہے، دوسرے شہروں کے لئے منی آڈر بھیج کر جسٹرڈ پارسل سے منگوائیں اور جبری سے منگوانے والے منی آڈر اس حساب سے بھجوائیں۔

- 2 بوتلوں کے لئے 300/- روپے
- 3 بوتلوں کے لئے 400/- روپے
- 6 بوتلوں کے لئے 800/- روپے

نوٹ: اس میں ڈاک خرچ اور پیکنگ چارج شامل ہیں۔

منی آڈر بھجوانے کے لئے ہمارا پتہ:

بیوٹی بکس، 53- اورنگزیب مارکیٹ، سیکنڈ فلور، ایم اے جناح روڈ، کراچی
دستی خریدنے والے حضرات سوہنی ہیرائل ان جگہوں سے حاصل کریں
بیوٹی بکس، 53- اورنگزیب مارکیٹ، سیکنڈ فلور، ایم اے جناح روڈ، کراچی
مکتبہ عمران ڈائجسٹ، 37- اردو بازار، کراچی۔
فون نمبر: 32735021

مسکرائے ”بھئی اس عمر میں چھوٹی موٹی کمزوریاں تو آتی جاتی ہیں اب احتیاط کر رہا ہوں۔“ انہوں نے پلیٹ میں ٹڈے کا سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ ”شروع کرو بیٹا!“ انہوں نے ہاتھ روکے تابش اور حسہ سے کہا۔
”عظمی گھر چلی گئی کیا؟“ کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر کچن میں چلی آئی۔

وہ جائے کا پانی رکھ رہی تھی تابش کی آواز پر چونکی۔
”تم کیوں آگئے میں جائے لا رہی ہوں۔“ تابش کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔
”اندر روبرو رہا تھا۔ سوچا یہیں آ جاؤں۔“
”آج بریانی اچھی بنی تھی۔ لگتا ہے۔ عظمی کی کوکنگ اچھی ہو گئی ہے۔“

”ہاں شکر ہے ورنہ بڑی پرابلم ہوتی تھی۔“
”تم بھی کچھ سیکھ لو اس سے۔“ تابش نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔
”کیوں عظمی ہے تو پکانے کو۔“ وہ اب پانی میں پتی ڈال رہی تھی۔

”عظمی ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ کیا انکل جینز میں عظمی تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔“
جب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ”عظمی نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی۔ تمہیں میرے لئے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔“
”کیوں؟“ تابش زور سے بولا۔

”میں پریشان نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا۔“
”مطلب۔“ جب پوری طرح اس کی طرف مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔

”آخر کار آپ کو شادی کر کے میرے گھر ہی آنا ہے اور میرے گھر کوئی عظمی اور اس جیسی نہیں۔“
وہ جو پوری توجہ سے تابش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک بل کے لیے حیران اور پھر پتا نہیں کون سی کیفیت کا شکار ہو کر رخ موڑ گئی۔

”تمہیں یہ غلط نہیں کیوں ہوئی؟“ اب کی بار یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آواز دھیمی تھی۔

”یہ نہ تو غلط نہیں ہے اور نہ ہی خوش نہیں۔ مجھے ‘امی‘ نورین، ہم سب کو تم بہت اچھی لگتی ہو اور امی کی ہمیشہ سے خواہش ہے تمہیں اپنی بہو بنانے کی۔“

جب خاموشی سے اسے سنتی رہی اس کے خاموش ہونے

READING
Section

133 015

ماہنامہ شمع نومبر

”نہیں یارا ایسا بھی کچھ سیریس نہیں، عمر کا تقاضا ہے،
 ہو سکتا ہے بی بی لو ہو گیا ہو۔“ انہوں نے حمید اللہ سے زیادہ
 خود کو تسلی دی تھی۔
 ”جو بھی ہے تمہیں ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروانا
 چاہیے۔“

”ہوں!“
 ”تمہیں کچھ دن ریسٹ بھی کرنا چاہیے۔ باس سے کچھ
 دن کی چھٹی لے لو۔“

”ٹھیک ہے۔“ وہ اثبات میں سر ہلا کے بولے۔
 چھٹی کے وقت وہ درخواست لے کر باس کے آفس میں
 گئے دستک دینے کے بعد ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں
 نے اجازت کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا اور سامنے جو
 منظر انہیں نظر آیا اس نے نہ صرف انہیں نظرس جھکانے
 پر بلکہ دو قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان پر جھکی ان کی
 رینل سیکریٹری جس کو ایڈجسٹ ہوئے دو ہفتے ہوئے تھے۔
 گھبرا کر ان سے دور ہٹی تھی جبکہ نروس تو وہ بھی ہو گیا تھا
 لیکن وہ مالک تھا۔

”مسٹر منظور! آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ ناک کرنے کے
 بعد اجازت کا بھی انتظار کرتے ہیں۔“
 ”آئی ایم سوری سر!“ وہ اسی طرح سر اور نظرس جھکانے
 بولے۔

”کیا عذاب آپ پر نازل ہو گیا تھا جو آپ یوں منہ اٹھا کر
 اندر آ گئے۔“
 ”سراوہ میں یہ درخواست دینے آیا تھا۔“

”کس چیز کی درخواست؟“ باس نے ابرو اچکا کر انہیں
 دیکھا۔

”سر کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں۔“
 ”مجھے تو آپ کی طبیعت میں کوئی خرابی نظر نہیں آرہی،
 ہٹے کئے کھڑے ہیں۔“

ان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ تمسخرانہ انداز میں
 بوللا جواباً ”دوسرے صوفے پر بیٹھی سیکریٹری کھلکھلا کر
 ہنس پڑی۔ غالباً وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔
 ”دیکھیں مسٹر منظور!“ وہ قدرے جھک کر آگے کو ہوا
 ”آپ یہ احسان مانیں کہ ڈیڈی کی وجہ سے آپ ابھی تک
 نکلے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی صحت اجازت
 نہیں دیتی تو آپ یہ جاب چھوڑ کر جاسکتے ہیں۔ اب آپ
 کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں جا میں اور کل اگر

پر بولی۔
 ”جبکہ میں شروع سے سن رہی ہوں کہ تمہاری نسبت
 تمہاری پھوپھی زاد سے ہو چکی ہے۔“ وہ جو کسی اور جملے کی
 توقع کر رہا تھا یہ سن کر بد مزہ ہوا۔ ”وہ کوئی نسبت نہیں تھی
 صرف بچپن کی بات تھی صرف ابو ایسا چاہتے تھے۔“

”لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم بھی ایسا چاہتے تھے۔“
 اس کی بات کاٹ کر وہ چڑانے والے انداز میں بولی۔
 ”اگر میں ایسا چاہتا تو اب تک وہ میری بیوی ہوتی۔“

”امی! نکل سے ہماری منگنی کی بات کرنا چاہتی ہیں اور
 کوئی بھی جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ ای اورین کی
 ہی نہیں میری بھی خواہش ہے۔“ جس نے جواب دینے کے
 بجائے خاموش نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔



فائل پر لکھتا ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ چکر تو انہیں صبح
 سے آرہے تھے لیکن اب ایک دم آنکھوں کے سامنے
 اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پین ایک طرف پر رکھ کر
 انہوں نے اپنا چکر اتارنا سرفائل پر ٹکا دیا۔ پتا نہیں کتنے ہی
 لمحے بے ہوشی میں بیت گئے تھے۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت
 میں انہیں احساس ہوا جیسے کسی نے ان کا نام پکارنے کے
 ساتھ انہیں کندھے سے پکڑ کر جھوڑ دیا ہو۔ انہوں نے
 بمشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ حمید اللہ کے ساتھ
 آفس کا دوسرا اسٹاف بھی ان کے گرد کھڑا انہیں پریشان
 نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

”تمہیں کیا ہوا ہے؟“ حمید اللہ نے ان سے سوال کیا تو
 انہیں یاد آیا کہ ان کے سر میں شدید درد تھا لیکن اب
 شدت کا وہ احساس نہیں تھا۔

”پتا نہیں یارا چکر سا آ گیا تھا لیکن اب میں ٹھیک
 ہوں۔“

حمید اللہ سے کہنے کے بعد باقی لوگوں سے مسکرا کر انہوں
 نے خود کو ٹھیک ظاہر کیا تھا۔ سارا اسٹاف انہیں حسب
 توفیق مشورہ دے کر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا
 تھا۔

”یہ سر کا چکرانا معمولی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تک
 تمہارے چہرے کا رنگ نارمل نہیں ہوا۔“ حمید اللہ
 قدرے پریشانی سے ان کا پیلاہٹ مائل رنگ دیکھ رہے

آپ آئیں تو ٹھیک ورنہ آپ کی جگہ لینے والے بہت ہیں۔“ منظور صاحب نے ایک خاموش نظر سامنے بیٹھے باس پر ڈالی اور اسی طرح سر جھکائے نکل آئے۔ باہر حمید اللہ شلکتے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔

”کیا ہوا منظور ہو گئی چھٹی؟“ انہوں نے سرنفی میں ہلایا۔

”کیوں؟“ جو ابا جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے حمید اللہ کو بتادیا کچھ لمحوں کے لیے وہ بول ہی نہیں سکے۔

”مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قریشی صاحب کے گھر کیسا شیطان پیدا ہو گیا ہے خود وہ کتنے پرہیزگار آدمی تھے اور بیٹا کیسا گندا اور عیاش۔ اس کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے کمپنی کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے یہ ساتویں سیکریٹری ہے جو اس نے بدلی ہے جب دل بھر جاتا ہے۔ نکال دیتا ہے جیسے سیکریٹری آفس کے لیے نہیں اس کی ذاتی خدمت کے لیے رکھی گئی ہو۔ وہ مسز رویں پاد ہیں۔ کتنی ایمان دار اور نیک خاتون تھیں۔ آتے ہی انہیں نکال دیا اور اس کے بعد روز ہی نیا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔“ آفس کی سیرٹھیاں اترتے ہوئے وہ غائب و غایب سے حمید اللہ کی باتیں سن رہے تھے۔

”میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔“ اپنے اسکوڑ کی طرف بڑھتا دیکھ کر حمید اللہ بولے وہ سر ہلا کر حمید اللہ کے پیچھے چلنے لگے۔

”حمید اللہ! جب کو میری طبیعت کے بارے میں مت بتانا ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔“ حمید اللہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سر ہلا دیا۔



”جب! کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔“ نادیا نے ہاتھ مسلتے ہوئے جب کو دیکھا جو چادر سر پر جمانے کے بعد اب اسی چادر سے منہ کو ڈھانپ رہی تھی۔

”ہم کیا کر رہے ہیں؟“ جب نے ہاتھ روک کر حیرت سے نادیا سے سوال کیا۔ ”یوں چھپ کر باہر جانا اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟“ میں پہلے یوں نہیں گئی۔“ اس کی پریشانی کو جب نے بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ گھبرا کر اڑھراڑھر دیکھنے لگی۔

مطلب ہے میں پہلے یوں اس جلسے میں

READING
Section

کلاسز تک کر کے ریسٹورنٹ میں لڑکوں سے ملنے جاتی ہوں۔“

”نہیں یارا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔“ نادیا کی گھبراہٹ میں یک دم اضافہ ہوا۔

”تو اور کیا مطلب سمجھوں؟ کیا میں اس کام میں بہت ایکسپٹ ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے وہ کام کرنے جا رہی ہوں جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور کیا مجھے ڈر نہیں کہ کوئی وہاں مجھے دیکھ کر کیا سوچے گا۔ یہاں تو دوستی میں ہمدردی بھی مہنگی پڑ رہی ہے۔ بیٹھی رہو میں نہیں جا رہی۔“

اس نے ایک دم جذباتی انداز میں چادر نوج کر سر سے اتاری تھی جبکہ نادیا کا منہ روکنے والا ہو گیا تھا۔ اس نے رو ہانسی ہو کر جب کا پازو تھام لیا۔

”سوری جب! تم جانتی ہو میں تمہاری طرح بہادر نہیں اور نہ اتنی کانفیڈنٹ۔ تمہارے پاس تو انکل کا بھروسہ ہے جبکہ میرے پاس۔“

کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو جب نے وزیدہ نظروں سے اس کا جھکا سر دیکھا جہاں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ جب نے گہرا سانس ہوا میں چھوڑا۔

وہ لوگ یونیورسٹی سے کافی دور آگئی تھیں لیکن اس کے باوجود کوئی رکشہ کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔

تب ہی نادیا نے بائیں طرف کھڑی گاڑیوں کو دیکھا۔ یہ کسی اسپتال کا پچھلا حصہ تھا۔ ان گاڑیوں سے فاصلے پر اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ وہ جب کو روکنے کا کہہ کر آگے بڑھی۔ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر اسے مایوسی سی ہوئی کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تب ہی نظریں گھمانے پر اسے ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں ٹائر تھا قریب آنے پر وہ سوالیہ نظروں سے نادیا کو دیکھنے لگا۔

”نہیں بی بی! یہ ٹیکسی ان صاحب کی ہے۔ میں تو مکنک ہوں۔“

اس نے درخت کے نیچے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو اس کی طرف پشت کیے موبائل پر بڑی تھا۔ نادیا نے جب کو موبائل پر کال کر کے اسے ٹیکسی ملنے کی خوش خبری سنائی اور خود ٹیکسی ڈرائیور کی طرف چل پڑی۔ ”سینس بھائی مال روڈ تک جانا ہے۔“ اس شخص نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے نادیا کو دیکھا۔ ”وہ ٹیکسی آپ کی ہے نا؟“ اس کی حیرت پر نادیا کو وضاحت کرنی پڑی۔ ”سوری میں

اس وقت فری نہیں۔“ اس نے بے زاری سے کہہ کر دوبارہ فون کان سے لگالیا۔

”اس!“ نادیا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر سامنے کھڑے شخص نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا تو نادیا تجل ہو کر واپس مڑ گئی۔ سامنے سے جب تیزی سے چلتی ہوئی اس کی طرف آرہی تھی۔

”چلیں پھر؟“ اس کے قریب پہنچتے ہوئے وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی۔

”اس ٹیکسی ڈرائیور نے منع کر دیا۔“ نادیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔

”کیوں؟“ جب نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ”کہتا ہے وہ فری نہیں۔“ اب کے جب نے بایاں ابرو اچکا کر نادیا کو دیکھا۔ اور جب فوراً شروع ہو گئی۔

”انسان کو اپنی روزی پہ لات نہیں مارنی چاہیے۔ آپ کے پینجر کھڑے ہیں اور آپ ایٹ ٹیوڈ دکھا رہے ہیں“ وہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔

”ہمیں بھی کوئی شوق نہیں اس پھٹی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھنے کا لیکن مجبوری ہے ہمیں کہیں ضروری پہنچنا ہے اور دوسری کوئی سواری نہیں مل رہی۔“

مقابل کی حیرت اب دلچسپی میں بدل گئی تھی۔

”کہاں جانا ہے آپ کو۔“ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئے بغیر مطلوبہ جگہ کا پتہ بتا کر شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی ٹیکسی کے قریب کھڑی نادیا کو اشارہ کیا۔

”کیا ہوا نہیں مانا؟“ ”ارے ماننا کیسے نہیں میں بات کر رہی تھی۔“ وہ مسکرا کر بولی۔

”آپ بھریں میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں۔“ اپنے پیچھے ان دونوں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کی آواز سنی۔

”یار! اب کیا اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ٹیکسی کی چابیاں اسپتال سے ملنے لگی ہیں۔“ نادیا اسپتال کی عمارت کی طرف جاتے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کر بولی۔

”ہمارا کام ہو رہا ہے نا، ہمیں کیا چابیاں اسپتال سے ملیں یا حوالات سے۔“ ٹیکسی ڈرائیور کو آنا دیکھ کر وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔

ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ کر ان دونوں نے نقاب والی چادرین اتار کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ بالوں میں برش

ڈرائیور نے سرسری سی نظر شیٹے پر ڈالی اور نقاب پوش حسیناؤں کے جلوے دیکھ کر اس کے دیدے پھٹنے کے قریب کھل گئے۔ جب کی نظر سامنے بڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے وہ اسے سخت ست سنانا چاہتی تھی لیکن نادیا کے اترنے اور حمزہ کو خطر کھڑے دیکھ کر وہ اتر گئی تھی لیکن اس کے قریب سے گزرنے پر اس پر خونخوار نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔

”کیا منگو اوس ٹھنڈا یا گرم؟“ مسلسل پانچ منٹ کی خاموشی کے بعد حمزہ کو پوچھنا پڑا تھا۔ جب نے نظریں گھما کر ساتھ بیٹھی نادیا کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔

جب کھنکھار کر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ جانتی تھی کہ محترمہ گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھ چکی ہیں اب جو بھی بکو اس کرنی ہے اسے ہی کرنی ہے۔

”ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے بلکہ کچھ بات کرنے آئے ہیں اور تم جانتے ہو کہ وہ بات کیا ہے۔“ جب کے کہنے پر حمزہ نے ایک نظر نادیا پر ڈال کر دوبارہ جب کو دیکھا۔

”نادیا نے مجھے بتایا تھا لیکن تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔“

”کیا مطلب کیا کرنا چاہیے۔“ جب کے ماتھے پر بل پر گئے تھے۔

”تم پچھلے ایک سال سے نادیا کے پیچھے محبت کی بانسری بجاتے پھر رہے ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو۔ کیا کرنا چاہیے۔“ اس کے اشتعال بھرے انداز پر نادیا نے گھبرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔

”میں اب بھی نادیا سے محبت کرتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔“ جب اب کی بار بولنے کے بجائے خاموشی سے اس کا منہ دیکھنے لگی لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے ”کہ جو کیا بکتے ہو۔“

”مجھ سے بڑے ایک بھائی اور بہن ہیں اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی ہے اور سب ان میری ہیں ایسے میں ای ابو میری شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے اور اس سے بڑی بات میں ابھی تک جلب لیس ہوں۔“

”وہی ساری شادی نہ کرنے کی ٹیپیکل اسٹوری۔“ اس کی ساری تقریر کے جواب میں جب استہزائیہ انداز

ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور ناراضی کے اظہار کے طور پر پوری طرح رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ لیکن نادیا کی مسلسل سوس سوس سے اسے الجھن ہونے لگی تھی۔

”فار گاڈ سیک نادیا! بند کرو یہ ماتم۔“ وہ نیچی آواز میں ڈپٹ کر بولی۔ یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر اس نے ٹیکسی کو رکوادیا تھا۔ ٹیکسی رکتے ہی وہ تیزی سے اتر کر یونیورسٹی کے قریب کھڑی اپنی دین کی طرف بڑھ گئی۔ اور اس کے پیچھے نادیا بوکھلا کر بھاگی تھی۔ دین میں ابھی باقی لڑکیاں نہیں آئی تھیں۔

”تم نے کراہی دے دیا؟“

”نہیں تو۔“ جب کے پوچھنے پر نادیا بے ساختہ بولی۔ اور اسی بے ساختگی سے دونوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا لیکن وہ ٹیکسی اب وہاں نہیں تھی جب نے افسوس سے سر جھٹکا۔

”دیکھو نادیا! تم نے جتنا رونا ہے نارو۔ اس کے بعد میں تمہیں ایسے نہ دیکھوں۔ حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ وہ آدمی اتنا بزدل ہے کہ پیار کر سکتا ہے لیکن تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ایسے پیار کا کوئی فائدہ نہیں جس سے کوئی جائز نام نہ جڑا ہو۔ دوست ہونے کے ناتے میں نے تمہارا ساتھ دیا اور اسی دوستی کے ناتے میں تمہیں یہ مشورہ دیا گی کہ تم وہی کرو جو انکل، آئی چاہتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چوائس نہیں۔“

جب نے بات کے اختتام پر بغور اس کا جھکا چہرہ دیکھا لیکن وہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ اس کی بات کبھی ہے یا نہیں۔



وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی لیکن اس کا سارا دھیان باہر کی طرف لگا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلاتی ہی قریب رکھا اس کا موبائل بج اٹھا اسکرین پر تائش کا نام جگمگا رہا تھا۔

”ہیلو۔“

”ہیلو کیسی ہو۔“

”ٹھیک ہوں تم سناؤ۔“

”کیا بات ہے اتنی بے زاری سے کیوں بات کر رہی ہو؟“ تائش کی مسکراتی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا۔

”کچھ نہیں۔“

میں بولی تو نادیا جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

”نادیا! اسے روتے دیکھ کر حمزہ ایک دم اٹھا۔

”او پکیز اس ہمدردی کی ضرورت نہیں۔“ جب نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر روکا تھا اور وہ جیسے کھڑا ہوا تھا ویسے ہی بیٹھ گیا۔

”حمزہ تم صاف بات کرو تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں۔“ جب نے بڑی سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔

”میں نادیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے وقت چاہیے۔“

”کتنا؟“ وہ مزید سنجیدگی سے بولی۔

”پانچ چھ سال۔“

نادیا نے بے ساختہ ڈبڈبائی نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔

”تم جانتے ہو ایسا ممکن نہیں نادیا سے چھوٹی دو بہنیں ہیں اور وہ بھی اس عمر میں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔“

حمزہ کچھ دیر پر سوچ انداز میں میز کی سطح کو گھورتا رہا۔ جبکہ نادیا کی امید بھری اور جب کی سنجیدہ نظریں اسی پر جمی تھیں۔

”امی ابو نہیں مانیں گے۔“

”او کے فائن۔ آج کے بعد تمہارا نادیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا۔“ اس نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے نادیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ حمزہ ایک دم بوکھلا کر اٹھا۔

”جب نادیا! پلین سنو تو۔“ لیکن جب نادیا کو کھینچتی ہوئی باہر لے آئی لیکن چند قدم پر ٹھنک کر رک گئی۔

وہی ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کے دروازے سے ٹیک لگائے بڑے اسٹائل سے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی جب ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر رک کر مڑ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔

”میں آپ کو کراہی دے چکی ہوں پھر اس طرح کھڑے ہونے کا مطلب؟“ جبکہ وہ اس کے بجائے نادیا کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل آنسو صاف کر رہی تھی۔

”مسٹر! میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔“ اس کے یوں نادیا کو دیکھنے پر وہ ناگواری سے بولی۔

”مجھے لگا، آپ، آپ کو واپس جانا ہوگا۔“ اس کی بدتمیزی کے جواب میں وہ بڑی شائستگی سے بولا۔

جب نے دوسری ناگواری نظر روتی ہوئی نادیا پر ڈالی اور

READING
Section

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

”ارے بتاؤ تیار۔“

”پتا نہیں پاپا نے کسی رشتہ کروانے والی کو بلایا ہوا ہے اور وہ باہر دھڑا دھڑا تصویریں دکھا رہی ہے۔“ دوسری طرف خاموشی چھانٹی تھی۔

”ہیلو! تابلش!“ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ زور سے بولی۔

”ہاں جبہ میں تمہیں کچھ دیر بعد کال بیک کرتا ہوں۔“
”لیکن سنو تابلش۔“ پر وہ فون رکھ چکا تھا۔ جبہ کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ گیٹ بند ہونے کی آواز سن کر وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ منظور صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر سیدھے ہو کر دیکھا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔

”پاپا! یہ کیا مذاق تھا؟“

”کون سا بیٹا؟“ اس کے قریب بیٹھنے پر انہوں نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔

”اس عورت کو کیوں بلوایا تھا آپ نے؟“

”تمہاری شادی کے لیے۔“

”پاپا میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ جاب کروں گی پھر شادی کے بارے میں سوچوں گی۔“
اس کے بولنے کے دوران وہ بڑے پیار سے اسے دیکھتے رہے۔

”اس میں تو بہت ٹائم لگے گا اور پتا نہیں میرے پاس اتنا ٹائم ہے یا نہیں۔“

”پاپا! ان کے انداز پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔“ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ۔“ اس کے چہرے کا رنگ یک دم بدلا تھا۔

اس کی حالت دیکھ کر منظور صاحب نے جلدی سے بات بدل دی۔

”میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں مناسب وقت پر اپنے گھر بس جائیں تو یہی ماں باپ کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔“

یہی عمر ٹھیک ہے۔ شادی کے لیے اور پڑھ تو تم شادی کے بعد بھی سکتی ہو ہے نا۔“ انہوں نے اس کا جھکا سر دیکھا۔ اس کے گرتے آنسو دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اسے مزید ساتھ لگایا تھا۔

”لیکن کیوں پاپا! آپ کو اچانک اتنی جلدی کیوں ہونے لگی ہے اور میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانے والی۔“

اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑے تھے۔

”چلو ٹھیک ہے۔ ابھی تو مجھے اچھی سی چائے پلو او۔“ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی کچن میں آگئی لیکن باغ مسلسل منظور صاحب کی باتوں میں الجھا تھا۔ جب وہ چائے لے کر آئی وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ چائے کا کپ ان کے سامنے میز پر رکھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی وہ دوسری طرف کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے جبکہ نظریں جبہ پر جمی تھیں۔

”کس کا فون تھا پاپا؟“ ان کے فون بند کرتے ہی اس نے پوچھا تھا۔

”تمہاری خالہ کا فون تھا۔“ کہہ کر انہوں نے چائے کا کپ اٹھالیا۔

”کیا تمہاری اپنی خالہ سے کوئی بات ہوئی ہے؟“

”نہیں تو کیوں؟“ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔

”تابلش سے؟“ دوسرا نام اس کے لیے اور حیران کن تھا۔

”کیسی بات پاپا؟“ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر جھٹکا۔

”کچھ نہیں تمہاری خالہ آنا چاہ رہی ہیں تابلش کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے۔“

”اوہ!“ وہ جو پاپا کے سوالوں سے پریشان ہو رہی تھی۔

ایک دم پر سکون ہو گئی۔ منظور صاحب نے بغور اس کا انداز دیکھا۔

”تمہارے خیال میں مجھے انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟“ جبہ نے کچھ کہنے کی بجائے خاموش نظر ان پر ڈالی اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بولے۔

”تابلش اچھا لڑکا ہے پھر تمہارا اکرن ہے تمہیں پسند کرتا ہے اور تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔“ ان کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ مزید چپ نہیں رہ سکی۔

”پاپا اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ انکار کر دیں۔“

”میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تابلش مجھے پسند نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی جاب نہیں کرتا والد اس کے حیات نہیں۔ وہ اکلوتا بیٹا ہے ظاہر ہے۔ شادی کی ذمہ داری اس کی ہوگی اور وہ کوئی اتنے ویل آف بھی نہیں تو ظاہر ہے اس صورت حال میں سفر تمہیں کرنا پڑے گا۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

”پاپا! تابلش ایجو کیٹڈ ہے اگر آج جاب نہیں تو کل مل جائے گی اور پھر میری پڑھائی وہ کب کام آئے گی۔“

جبہ کی وضاحت کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتے تھے اور اپنی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر انہیں جبہ کے لیے جلد از جلد کوئی مضبوط سہارا تلاش کرنا تھا اور اس وقت تابش سے بہتر وہ مضبوط سہارا اور کوئی نہیں تھا۔



دستک دینے کے بعد انہوں نے تب تک دروازہ نہیں کھولا تھا جب تک انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔
”جی فرمائیں۔ منظور صاحب! کیسے تشریف لائے آپ۔“ کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دائیں بائیں جھلاتے ندیم قریشی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ منظور صاحب نے ہاتھ میں پکڑی درخواست اس کے سامنے رکھی۔
”یہ کیا ہے؟“ باس نے ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔

”میں نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ کے علاوہ کچھ لون کے لیے قریبی صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی وہ مجھے مطلوبہ رقم دے دیں گے۔“ ندیم قریشی نے آکٹاہٹ سے گہرا سانس لیا۔

”منظور صاحب! میں کتنی بار آپ کو ایک ہی بات سمجھاؤں۔ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور کتنی رقم؟“ اس نے اب کے جھک کر کانٹھ پر نظر ڈالی۔ ”دس لاکھ واہ کیا مذاق ہے ڈیڈی نے جو وعدے کیے تھے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ میں ان کی طرح شاہ خرچیاں کر کے کمپنی کو نقصان نہیں پہچانا چاہتا۔ آپ کی سروس کا جتنا پراویڈنٹ فنڈ بنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ جا ب چھوڑیں گے اس سے پہلے نہیں۔ اب آپ کھڑے کیوں ہیں میں آپ کو جواب دے چکا ہوں آپ جا سکتے ہیں۔“ وہ بے عزتی کے احساس سے ہونٹ چباتے ہوئے باہر نکل آئے۔

”کیا بات ہے کچھ پریشان نظر آرہے ہو۔“ وہ ابھی اپنی کرسی پر آکر بیٹھے تھے جب حمید اللہ چائے کے دو کپ لیے ان کے سامنے والی کرسی پر آکر بیٹھ گئے۔

”ہاں!“ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اعتراف کیا۔
”خیریت!“ وہ چونکے۔

”ندیم قریشی سے لون کی بات کرنے گیا تھا انکار کر دیا۔“ حمید اللہ نے گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگالی۔

”تم جانتے تو ہو اس گھنیا آدمی کو پھر گئے ہی کیوں؟“

”کیا کرتا پار مجبوری ہے۔ جبہ کی خالہ نے جبہ کا رشتہ مانگا ہے۔ اگلے ہفتے وہ لوگ منگنی کرنے آرہے ہیں۔ جبہ کو تو تم جانتے ہو مناسب اچھا چاہیے اور اچھے انتظام کے لیے اچھا پیسہ چاہیے پھر شادی اس کی تیاری کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہے اور اس دن جو ٹیسٹ کروائے تھے اس پر تیس ہزار لگ گئے تھے اب ڈاکٹر نے وہ رپورٹس آگے شوکت خانم بھیج دی ہیں۔“ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے حمید اللہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔

”شوکت خانم کیوں؟“

”پتا نہیں پارا ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہا۔ کہتا ہے رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔“ انہوں نے واقعی اپنا سر تھام لیا تھا۔

”منظور پارا ایسے پریشان نہ ہو اللہ کرم کرنے والا ہے۔“ انہوں نے اٹھ کر ان کے کندھے پر دلا سے کے انداز میں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔

”میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔“ منظور صاحب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔

”نہیں حمید اللہ! تمہاری خود سو ضرورتیں ہیں اب ایسا بھی نہیں کہ میں بالکل تلاش ہوں۔“ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔

”میں جانتا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں تم لے لو۔ جب ہوں واپس کر دوں۔“

منظور صاحب نے سرنفی میں ہلایا ”تم نے کہہ دیا حمید اللہ یہی کافی ہے میرے لیے۔ تم یہ بتاؤ نادیدہ کے رشتے کا کیا بنا؟“

”آیا کل آئی تھیں انگوٹھی پہنا گئیں۔ گھر کی بات ہے اس لیے کوئی فنکشن نہیں کیا۔“

”ہوں!“ منظور صاحب نے سر ہلایا۔

”نادیدہ سے پوچھا تھا؟“

”اس سے کیا پوچھنا تھا؟ بچپن سے جانتی ہے یا سر کو۔“

شریف ہے، سلجھا ہوا اور آگے بڑھنے کی لگن ہے، آج کل کے دور میں یہی مل جائے بہت ہے اور پار غیروں میں بڑے دھوکے ہیں۔ آج کل تو بیٹیوں کے رشتے کرتے ڈر لگتا ہے، یہ تو جب آپ نے بات کی تو میں نے زیادہ سوچا نہیں، آیا کو جینز بھی نہیں چاہیے۔ میری بیٹی کو پار سے رکھیں گی اور پھر مجھے دو بیٹیاں اور بھی بیاہنی ہیں۔“

”ٹھیک کہہ رہے ہو۔“ انہوں نے گہرا سانس لے کر

ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگالیا۔



”کل جتنی جلدی ہو پہنچ جانا یہ نہ ہو مہمانوں کی طرح منہ اٹھا کے آؤ۔“ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے جب نے نادیہ سے کہا۔

”ہاں بابا! صبح سے سو مرتبہ یاد کروا چکی ہو اور تمہاری منگنی میں نہ پہنچوں ایسا ہو سکتا ہے۔“

”ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔“ جب نے وارنگ کے انداز میں کہتے ہوئے بیگ سے چیونٹم نکال کر ایک اپنے منہ میں ڈالی اور دوسری اس کی طرف بڑھائی۔

”تمہارے منہ پر بارہ کیوں بچ رہے ہیں۔“

”یار! وہ سامنے دیکھو۔“ نادیہ کے کہنے پر اس نے سرسری سی نظر سامنے دوڑائی۔

”کیا ہے؟“ اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔

”یار وہ ٹیکسی ڈرائیور۔“ نادیہ کے بھنچے بھنچے انداز پر اس نے غور سے سامنے دیکھا۔ جینزنی شرٹ میں وہی کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تو جب نے سٹپٹا کر رخ موڑ لیا۔

”کھڑا ہے تو میں کیا کروں مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟“ اب کے وہ رخ موڑ کے غصے سے بولی۔

”تم پچھلے چار دن سے نہیں آرہیں پر یہ مجھے روز یہاں نظر آتا ہے۔ کل تو میرے پیچھے دین تک آیا تھا۔“

”کیا؟“ جب چلائی ”تم چار دن سے دیکھ رہی ہو۔ کل وہ پیچھے بھی آگیا۔ تم نے پوچھا نہیں۔ کیا تکلیف ہے اسے۔“

”میں اکیلی تھی تو ڈر گئی۔“ نادیہ کے منمناتے انداز پر اس نے قہر بھری نظر نادیہ پر ڈال کر چور نظروں سے پیچھے دیکھا وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔

”مجھے لگتا ہے اس دن ہم نے اس کا کرایہ نہیں دیا تھا نا تو اس لیے پیچھے آتا ہے۔“ نادیہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔

”تو مارنے تھے پیسے اس کے منہ پر۔“ جب نے وابت پس کر بولی اور پھر خود تیزی سے مڑی اور سڑک پار کر کے اس کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی جبکہ وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے

مطلبین کھڑا تھا۔ اس کے مڑنے اور اپنی طرف آتا دیکھتے ہی ہلکا کرکٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔

”کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیا پریشانی ہے آپ کو؟“ اس کے سوال پر مقابل پہلے حیران اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ مسکرایا۔

”یہاں روزانہ کھڑے ہونے کا مطلب؟“

”یہاں کہاں لکھا ہے کہ میں یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔“ اب کی بار اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ ایک پل کے لیے جب لاجواب ہو گئی۔

”اس دن ہم جلدی میں تھے۔ آپ کا واپسی کا کرایہ دینا یاد نہیں رہا۔ کتنا کرایہ تھا؟“ وہ بیگ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بولی۔

”آپ رہنے دیں۔“ جب نے ماتھے پر بل ڈال کر مقابل کو دیکھا۔

”کیوں میں آپ کو بھکارن لگتی ہوں یا آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔“ اس نے پاس کھڑی پراڈور پر نظر ڈالی جس سے وہ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔

”گاڑی کہاں ہے آپ کی؟“ اس کے پوچھنے پر اس نے گاڑی پر نظر ڈالی۔

”ٹیکسی کی بات کر رہی ہوں۔“ اس نے استہزائیہ انداز میں اس گاڑی پر نظر ڈال کر اسے بتایا۔

”آپ کو جانا ہے کہیں؟“ وہ اس کا طنز نظر انداز کر کے پوچھنے لگا۔

”نہیں“ یہ رکھیں چار سو اور آئندہ یہاں نظر مت آنا۔“ بڑے شاہانہ انداز میں اس نے روپے اس کی طرف بڑھائے۔

”پکڑیں۔“ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے زور دے کر کہا تو اس کے پیسے تھامتے ہی وہ نادیہ کا ہاتھ تھام کر تیزی سے دین کی طرف بڑھی۔ جب دین چلی تب بھی وہ وہی کھڑا تھا۔



”تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔“ کمرے میں داخل ہوتے ہی نادیہ نے کہا تو جب مسکرا کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی ”آئینہ نادیہ کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔“

”تم بہت لگی ہو جب!“ نادیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے سر سے دوپٹا اتار رہی تھی۔ نادیہ کے کہنے پر اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

”تم جیسا چاہتی تھیں جو چاہتی تھیں تمہیں مل گیا۔“

بچے آپ تو آپ کو ہی کہنا تھا نا! ان کے برعکس وہ کافی خوش گوار موڈ میں تھی۔

”کتنا چلنا ہے؟“ تھوڑا سا چل کر منظور صاحب تھک گئے تھے۔

”وہ سامنے۔“ جب نے سامنے بنے مال کی طرف اشارہ کیا۔ ”وہاں جانا تھا تو رکشہ اتنی پیچھے کیوں روکا؟“

”پاپا! یہ لاہور کا سب سے بڑا مال ہے۔ یہ لمبی گاڑیوں کی لائن دیکھ رہے ہیں۔ یہاں رکشہ لا کر میں نے اپنی عزت کا فالودہ نہیں کرنا تھا۔“

منظور صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔

”بیٹا! انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ یہاں کیا اسٹینڈرڈ ہے تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ بازار بھرے پڑے ہیں چیزوں سے۔“

”پاپا! کلاس اور ٹیسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔“ وہ ان کا ہاتھ تھام کر مال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی۔ اب کی بار انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پہلی بار کسی مال میں آئے تھے۔ وہاں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر انہیں کلاس کا اندازہ ہو رہا تھا۔

”پاپا یہ کیسا ہے؟“ وہ بے خیالی میں سامنے دیکھ رہے تھے جب جب کی آواز پر پلٹے۔ وہ آسمانی رنگ کا کرتا ساتھ لگائے ان سے پوچھ رہی تھی۔

”بہت اچھا ہے۔“ وہ واقعی بہت اچھا تھا۔

”لے لوں؟“

”ہاں ضرور، کتنے کا ہے؟“

”سات ہزار۔“ جب نے ٹیگ پڑھ کر انہیں بتایا تو انہیں جھٹکا لگا۔

”او میرے خدا! بیٹا! یہ تو بہت منگاہے۔ اتنے میں تو گھر کی کئی چیزیں آجاتی ہیں۔“ وہ پریشانی سے بولے۔

”پاپا! یہ ڈیزائنر کرتا ہے ابھی تو میں نے کم قیمت والا لیا ہے اور آپ اس پر بھی مجھے ٹوک رہے ہیں۔“ اس نے کرتا واپس ہینگ کر دیا۔

منظور صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا یقیناً ”وہ خفا ہو گئی تھی۔“

”جب!“ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ پکارا۔

”لے لو بیٹا! میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔“

جب وہ پٹا بیڈ پر رکھ کر نادیہ کے قریب آکر بیٹھ گئی۔ ”انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، پاپا تو میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے تمہاری طرح چپ کا روزہ نہیں رکھا۔ کھل کر اپنی خواہش ڈیمانڈ سب بتایا۔ اسی لیے تو آج میری اور تابش کی منگنی ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات تابش حمزہ کی طرح بزدل نہیں تھا۔“

نادیہ نے سرنفی میں ہلایا۔ ”نہیں جب! جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تابش کا ساتھ تمہارے نصیب میں نہ لکھا ہوتا تو تمہاری ساری کوشش، خواہش، ڈیمانڈ سب بے کار جاتی اس لیے میں نے تمہیں لگی کہا ہے کیونکہ اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں آزمائش سے بچالیا۔“

”میں تم سے اتفاق نہیں کرتی، میں کبھی کمپروماز نہیں کر سکتی اگر تابش ایجوکیٹڈ، گڈ لکنگ نہ ہوتا۔ کوئی معمولی کام کرتا تو چاہے وہ مجھے کتنا ہی چاہتا۔ وہ میری پسند نہ ہوتا، میں مر کر بھی اس سے شادی نہ کرتی۔“ وہ تنفر سے بولی پھر سر جھٹک کر نادیہ کو دیکھا۔ ”اگر تم خوش نہیں تو کیوں منگنی کی ابھی بھی دقت ہے۔ تو رو۔“

نادیہ نے سرنفی میں ہلایا۔

”اب ممکن نہیں۔ سب لوگ اس رشتے سے خوش ہیں اور میں نے بھی سمجھو تا کر لیا ہے۔“

جب کچھ کہنا چاہتی تھی تب ہی منظور صاحب اندر داخل ہوئے۔

”سہیلیوں کی باتیں ختم ہو گئیں۔“ انہوں نے دونوں کے چہرے دیکھ کر پوچھا پھر نادیہ سے بولے۔

”چلو بیٹا! حمید اللہ بلا رہا ہے۔“

”او کے جب! چلتی ہوں یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔“



”جب! ایک تو بیٹا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں، شاپنگ تمہیں کرنی تھی نادیہ کو ساتھ لے کر جانا تھا مجھے کیوں گھسیٹ لیا۔ اب مجھے کیا پتا کہ لڑکیاں کیسے کپڑے پہنتی ہیں۔“ اس کے ساتھ بیٹھے منظور صاحب نے کافی جھنجھلاہٹ سے کہا۔

”پاپا! نادیہ کو فون کیا تھا۔ بڑی تھی۔ اس کی پھوپھو عرف پکارا۔“

”لے لو بیٹا! میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔“

”نہیں رہنے دیں۔“ وہ نروٹھے پن سے بولی۔
 ”ارے بابا! سوری کہانا لے لو۔“ وہ اسے پچھارتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا کر کرتالے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔

وہ بھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔
 ”ارے منظور صاحب!“ اپنے نام کی پکار پر وہ بے ساختہ پلٹے اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بالکل ساکت رہ گئے۔

”کیا بات ہے منظور صاحب پہچانا نہیں؟“ اب کے بل ادا کرتی حسب نے بھی مڑ کر دیکھا۔
 ”کیسے ہیں آپ سر؟“ آخر کار منظور صاحب کو اپنے حواس بحال کر کے بولنا پڑا۔

”میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ اپنے دھیان میں تھے تو سوچا۔ خود جا کر آپ سے مل لوں تعارف نہیں کروا میں گے ان کا۔“ وہ جب پر نظریں جما کر بولا۔
 منظور صاحب کا دل چاہا وہ ایک پل ضائع کیے بغیر حسب کو اس کی نظروں سے دور کر دیں، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔

”یہ میری بیٹی ہے اور یہ ہماری فیکٹری کے مالک ندیم قریشی ہیں۔“

”کیسی ہیں آپ؟“ وہ اب بھی حسب کو دیکھ رہا تھا۔
 ”فائن!“ وہ اپنے مخصوص انداز میں مختصر جواب دے کر کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔

”ندیم مل۔“ اس کے ساتھ کھڑی اس ماڈرن لڑکی نے مڑ کر کہا۔

”کتنا بنا؟“ وہ حسب کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہوا کہ حسب بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔

”نورنی تھاؤ زند“ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے لڑکے نے جب رقم بتائی تو حسب نے بڑے بے ساختہ انداز میں ندیم قریشی کو دیکھا جو کریڈٹ کارڈ پکڑتے ہوئے بھی حسب پر نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔

”چلو بیٹا!“ منظور صاحب نے بڑے بے ساختہ انداز میں اس کا ہاتھ کھینچا۔

”اوکے سر!“ مڑ کے مڑتا ”انہیں ندیم قریشی کو مخاطب کرنا پڑا اور اگلا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نکلے تھے۔

”آپ کے پاس کافی بیگ ہیں پایا۔“ حسب کی بات کا جواب نہ دے کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ”اور کافی امیر لگتے ہیں

جو اپنی دائف کو اتنی شاپنگ کروا رہے تھے۔“
 ”وہ اس کی دائف نہیں۔“ وہ زہر خند انداز میں بولے۔

”تو پھر بہن ہوگی۔“
 ”نہیں۔“

”اچھا!“ وہ حیران ہوئی۔ ”تو پھر کون اتنی خاص تھی؟“
 ”کوئی نہیں۔ تم بس چلو۔ یہاں سے۔“ وہ اسے تقریباً کھینچ کر چلتے ہوئے بولے۔

”لیکن بابا!“

”جب اچھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔“ ان کے کہنے پر حسب نے ان کا چہرہ دیکھا جو بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔

”پاپا پلیز۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔“ اس نے انہیں بیڑھیوں پر زبردستی بٹھا دیا۔ ”میں پانی لاتی ہوں۔“
 ”نہیں مجھے بس کھلے چلو۔“

”آپ بیٹھیں میں آتی ہوں۔“

وہ تیزی سے پارکنگ کی طرف جاتے لگی اپنے دھیان میں تیزی میں چلتے چلتے اس کا سر بڑی زور سے کسی کے کندھے سے ٹکرایا اس کا سر جھکا کر رہ گیا۔

”او آپ کو لگی تو نہیں؟“ اس کو سر تھامتے دیکھ کر سامنے کھڑے شخص نے پوچھا اس نے بمشکل سر اونچا کیا اور پھر نظریں جیسے اس پر گھبر گئیں جبکہ مقابل بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حسب کے منہ سے گہری سانس نکلی۔

”شکر ہے۔“ وہ بڑبڑائی۔ ”آپ کی ٹیکسی کہاں ہے؟“
 ”دیکھیں پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔“ اس کی خاموشی پر اسے لگا کہ اس کی چھلی بد تمیزی کی وجہ سے کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ ”پلیز!“ وہ کبھی بھی یوں کسی کی منت سماجت نہ کرتی لیکن یہاں سوال اس کے باپ کا تھا۔

”کہاں ہیں وہ؟“

”وہ ادھر مال کے باہر۔“

”اوکے۔ میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔“ وہ تیزی سے مڑ گیا۔

جب وہ منظور صاحب کے پاس پہنچی وہ تب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے ان کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ اسے انتظار کرتے پندرہ منٹ گزر گئے لیکن ٹیکسی ڈرائیور کا دور دور تک پتا نہیں تھا۔ غصے اور بے بسی

گیٹ بند ہونے پر وہ تلملاتی ہوئی اندر آئی۔
 ”پاپا کیا ضرورت تھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اندر بلانے
 کی اور اتنا سرچڑھانے کی۔“

”جب!“ منظور صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔
 ”ٹیکسی ڈرائیور انسان ہوتے ہیں اور پھر وہ کتنا شریف اور
 تمیز دار بچہ تھا۔“

”پاپا! آپ کو کیسے پتا۔ وہ شریف تھا۔“ وہ جھنجھلا کر
 پوچھنے لگی۔

”شرافت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور کیا یہ
 اس کی شرافت نہیں تھی کہ اس کی ٹیکسی خراب تھی پھر
 بھی تمہارے کہنے پر وہ کسی کی ٹیکسی لے کر ہمیں چھوڑنے
 آیا۔“

”تو کوئی احسان نہیں کیا۔ کرایہ لیا ہے۔“

”اس نے نہیں لیا۔“

”کیا؟“ وہ چیخ پڑی۔ ”حد ہوتی ہے پاپا اب جب ملے گا
 کرایہ مانگے گا۔“ وہ آخر میں بڑبڑا کر رہ گئی۔

”میں دودھ کے ساتھ آپ کو دوائی دیتی ہوں آپ کھا کر
 لیٹ جائیں۔“ وہ کہہ کر بچن میں آگئی۔



”آپ نے مجھے بلایا سر!“

”آپ میں منظور صاحب! اب کیسی طبیعت ہے آپ
 کی؟“ منظور صاحب نے کچھ حیرت سے ندیم قریشی کو
 دیکھا۔

”اب تو کچھ بہتر ہے۔“

”آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیں۔“ وہ اس مہربانی پر
 حیران ہوتے ہوئے بیٹھ گئے۔

”اس دن آپ نے لون کی بات کی تھی میں شرمندہ
 ہوں میں نے اس دن روڈی بات کی پراویڈنٹ فنڈ آپ کا
 حق ہے۔ آپ ان فارم پر سائن کر دیں۔ کچھ دنوں میں
 آپ کو لون مل جائے گا۔“ منظور صاحب کچھ لہجوں کے
 لیے بول ہی نہیں سکے۔ یہ کایا پلیٹ کیسی۔

”منظور صاحب!“ ندیم قریشی قدرے زور سے بولا تو
 انہوں نے چونک کر پہلے اسے اور پھر اس فارم کو دیکھا۔

”بیٹھے۔“ ندیم قریشی نے پین ان کی طرف بڑھایا۔

منظور صاحب نے گہرا سانس لیا اور مطلوبہ جگہ پر سائن
 کر دیے۔

سے اس کا برا حال تھا تب ہی ایک ٹیکسی اس کے قریب
 آ کر رکی اور اسے اس ٹیکسی سے نکلنے دیکھ کر وہ پھٹ پڑی۔
 ”میں نے بتایا تھا کہ میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں
 لیکن اس کے باوجود اتنی دیر۔ پندرہ منٹ سے پاگلوں کی
 طرح انتظار کر رہی ہوں۔“

”جب!“ منظور صاحب نے زور سے اسے آواز دی وہ جو
 ہونٹ بچھینچے اس کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ تیزی سے منظور
 صاحب کی طرف بڑھا اور ہاتھ کا سہارا دے کر انہیں کھڑا
 کیا۔

”سوری انکل! مجھے ٹیکسی اریج کرنے میں ٹائم لگ گیا۔
 آپ کو اسپتال لے جاؤں۔“ وہ منظور صاحب کو فرنٹ
 سیٹ پر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔

”نہیں بیٹا! بہت شکریہ میری دوا میں گھر چلے وہ کھاؤں گا
 تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔“

وہ اب منظور صاحب سے باتیں کر رہا تھا جبکہ پیچھے بیٹھی
 جب تلملار ہی تھی۔

”بس یہی روک دیں“ مین روڈ پر جب نے اس کو ٹیکسی
 روکنے کو کہا تھا۔

منظور صاحب نے مڑ کر اسے دیکھا۔

”یہاں کیوں بیٹا؟ گھر کے آگے اترتے ہیں۔“ منظور
 صاحب کے کہنے پر اس نے شیشے میں پیچھے دیکھا۔ اب وہ پاپا
 سے کیا کہتی۔ وہ اس کو گھر کا پتا نہیں بتانا چاہتی اور وہ آگے
 بیٹھا جیسے اس کی کیفیت کا مزہ لے رہا تھا۔ ٹیکسی گھر کے
 آگے رکی تو وہ غصے سے اتری اور اسی غصے سے گھر کا دروازہ
 کھول کر اندر داخل ہوئی یہ بھی یاد نہ رہا کہ پاپا کی طبیعت
 خراب ہے۔ پتا نہیں کیوں اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کر
 اسے غصہ آجاتا تھا اور اس کی خاموشی اور مخصوص
 مسکراہٹ سے چڑھتی تھی۔

”جب بیٹا! کھانے کو کچھ لے آؤ۔“ کچھ دیر بعد اس نے
 منظور صاحب کی آواز سنی تو تیزی سے اٹھی لیکن
 دروازے پر ہی اسے رکنا پڑا۔

”نہیں انکل! اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے دیر ہو رہی
 ہے۔ یہ میرا نمبر رکھیں اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے کال
 کر لیں۔ میں حاضر ہو جاؤں گا۔“

”جیتے رہو بیٹا!“ منظور صاحب نے اپنے آگے جھکے اس
 کے ہنر پر پیار کیا۔ سیدھے ہو کر اس نے ایک طائرانہ نظر
 ڈالی اور باہر نکل گیا۔

”اس وقت کون آگیا؟“ وہ حیران ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔
 ”سرپرائز۔“ گیٹ کھلتے ہی اسے پہلے تابش کی آواز سنائی دی اور پھر شکل دکھائی دی۔
 ”ارے اتنی حیران کیوں ہو۔“ وہ اندر آتے ہوئے بولا
 جب واقعی اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔
 ”یہ لو۔“ اس نے جب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

”یہ کیا ہے؟“

”یہ امی نے تمہارے لیے سوٹ اور جیولری بھیجی ہے اور یہ مٹھالی میں لے کر آیا ہوں ایک گڈ نیوز ہے۔ کیس کر۔“ تابش کے لہجے سے اس کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔
 ”تمہیں جاب مل گئی ہے۔“ جب نے بڑے مطمئن انداز میں کہا تھا تو اب کی بار وہ حیران رہ گیا تھا۔
 ”تمہیں کیسے پتا چلا؟“

”تمہارے انداز سے۔“ وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔
 ”لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ مجھے یہ جاب دینی میں ملی ہے۔“

”اچھا! وہ مسکرا کر بولی۔

”کیا بات ہے۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟“ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
 ”نہیں۔ مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے۔“
 ”تو پھر تمہارا انداز اتنا بچھا بچھا کیوں ہے اور تمہاری آنکھیں بھی روئی روئی لگ رہی ہیں۔“ اب کے تابش نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔

”نہیں بس ایسے ہی سر میں درد تھا۔“ جب نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔
 ”مجھے بتاؤ جب! ضرور کوئی بات ہے۔“ وہ اب بالکل اس کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔

”پاپا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ دن بہ دن ان کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ کل تو میں نے انہیں خون کی الٹی کرتے دیکھا تھا لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔“ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی بھرا گئی۔

”اوہ! تابش نے افسوس سے سر ہلایا۔ ”میں انکل سے مل لوں۔“

”ہاں۔ تم چلو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔“ وہ سر ہلا کر منظور صاحب کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔
 جب وہ چائے لے کر آئی تابش کچھ بات کر رہا تھا لیکن اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ چائے پینے کے دوران وہ منظور صاحب سے دینی والی جاب ڈسکس کرتا رہا۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھی رہی پھر منظور صاحب کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں آگئی۔ آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا تابش برز بند کر رہا تھا۔

”تمہارا دھیان کہاں ہے؟ دودھ ابل رہا ہے۔“
 ”اوہ“ وہ افسوس سے چولہے پر گرے دودھ کو دیکھنے لگی۔

”تم خواہ مخواہ اتنا پریشان ہو رہی ہو، انکل ٹھیک ہیں۔“
 جب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

”اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ آخری دفعہ تمہاری یہ سٹرل شکل دیکھ کر جاؤں گا تو کیا اچھے خیالات آئیں گے مجھے۔“
 اس کے منہ بتانے پر وہ بے ساختہ انداز میں مسکرائی تھی۔
 ”یہ ہوئی نابات اور وہ تمہاری دوست اس کا کیا بنا ہو گئی اس کی منگنی۔“

”ہاں اس کے کزن سے۔“

”اور وہ جو اپنی پسند کو لے کر اتنی پریشان تھی۔“ تابش نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔
 ”چھوڑو اس بے کار آدمی کو، میں نادیدہ کو لے کر گئی تھی فیس ٹوفیس بات کروانے تاکہ بعد میں اسے کوئی افسوس نہ رہے۔“

”تم اس لڑکے سے ملنے ریٹورنٹ گئی تھیں؟“ ساری بات کے درمیان تابش کو یہی بات قابل غور لگی تھی۔
 ”ہاں اور نادیدہ بھی تو میرے ساتھ گئی۔“

”حد ہوتی ہے حد! تمہیں کیا ضرورت تھی یہ ڈسٹ اریج کرنے کی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔“ وہ ناگواری سے بولا۔ جب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

”تابش! میں کوئی ڈسٹ پر نہیں گئی تھی۔ میں یونیورسٹی میں اتنے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں۔“

”وہ اور بات ہے۔“ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ”لیکن یوں ریٹورنٹ میں جا کر لڑکوں سے ملنا۔“

”لڑکوں نہیں لڑکا، وہ بھی جس سے میرا کوئی واسطہ نہیں

تھا۔ ”وہ ایک دم مشتعل ہو کر بولی۔ ”ابھی تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا تو تم ملنے چلی گئیں اور اگر ہوتا تو۔“ وہ بھی بھڑکے ہوئے انداز میں بولا۔ جب کچھ لحوں کے لیے بول نہیں سکی۔

”تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔“

”شک تمہیں کر رہا صرف یہ بتا رہا ہوں۔ مجھے پسند نہیں یہ سب۔ تمہیں ضرورت کیا ہے پر اے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی۔“ جب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تابش بھی خاموش ہو گیا۔ ”چلتا ہوں اگر جانے سے پہلے ٹائم بلا تو مل کر جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔“ جب کا دل اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ اسے اچھے طریقے سے اللہ حافظ بھی نہ کہہ سکی۔



منظور صاحب نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا تو ساتھ بیٹھے حمید اللہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دیا۔ ”اللہ پر بھروسہ رکھو یا راسب ٹھیک ہو جائے گا۔“ جواب دینے کے بجائے وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ ”منظور! سلما آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔“ ریسپیشن پر کھڑے لڑکے نے انہیں اندر جانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔

”آئیے منظور صاحب بیٹھے۔“ انہیں دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ اور حمید اللہ ڈاکٹر کی میز کے آگے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ”ہوں“ ڈاکٹر نے ہنکارا بھرا اس کی نظریں اپنے سامنے رکھی فائل پر تھیں ”آپ کی جو رپورٹ شوکت خانم بھیجی تھی۔ وہ آگئی ہے اور مجھے جو اندیشہ تھا۔ وہ صحیح ثابت ہوا۔“ منظور صاحب کی دھڑکنیں ست ہونے لگی تھیں۔ ”آپ کو کینسر ہے۔“ منظور صاحب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے ڈاکٹر کے کمرے میں لگے ایسے سی کی خشکی انہیں اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔

ڈاکٹر نے منظور صاحب کا چہرہ دیکھا تو گہرا سانس لے کر بولے۔

”حوصلہ کریں منظور صاحب! اگر بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا دینے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ اگرچہ آپ کا کینسر کافی پھیل چکا ہے لیکن میں پھر بھی ناامید نہیں۔ آپ کو جلد از جلد اسپتال میں ایڈمٹ ہونا ہوگا۔“

منظور صاحب جیسے بالکل بت بن کر رہ گئے تھے۔
”ڈاکٹر صاحب! خرچہ کتنا ہوگا۔“ حمید اللہ نے سوال کیا تھا۔

”آپ تو جانتے ہیں۔ یہ بہت مہنگا علاج ہے۔ خرچ تو لاکھوں میں ہوگا۔ آپ انہیں ایڈمٹ کروائیں چارجز آپ کو ریسپیشن سے پتا چل جائیں گے۔“ کہنے کے ساتھ انہوں نے دوبارہ منظور صاحب کو دکھا۔

”اوکے ڈاکٹر صاحب! ہم رقم کا بندوبست کر کے آپ کو اطلاع کرتے ہیں۔“ حمید اللہ نے ڈاکٹر سے مصافحہ کرنے کے بعد منظور صاحب کو گھڑا کیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو انہیں واضح طور پر اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئیں۔ وہ اسپتال کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہیں نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ حمید اللہ ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ ”یار تم تو میرے اتنے بہادر دوست ہو، بیماری کا مقابلہ کرنے کے بجائے تم ہمت چھوڑ کر بیٹھ گئے ہو۔“ منظور اگر تمہیں جب سے پیار ہے تو تمہیں اس کی خاطر علاج کروانا پڑے گا تم نے سنا نا ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ناامید نہیں۔

”یار! امر تو جانا ہے تو وہ پیسہ کیوں نہ جب کے کام آئے۔“
”کیسی نصول باقیں کرتے ہو جب کے لیے تم اہم ہو، پیسہ نہیں اگر تم اسپتال میں ایڈمٹ نہ ہوئے تو میں جب کو سب بتا دوں گا۔“

”نہیں۔“ وہ بے ساختہ بولے۔
”تو بس اب اٹھو اور ہمت سے کام لو۔“ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگے۔



ندیم قریشی نے ابرو اچکا کر ان کا چہرہ دیکھا جو چہرہ جھکائے مغموم بیٹھے تھے۔ ”مجھے بہت افسوس ہوا آپ کو اتنی خطرناک بیماری ہے۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟“
”میں ہوں اور میری بیٹی۔“

”ہوں۔“ وہ ہنکارا بھر کر بولا ”یقیناً“ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ آپ کے بعد اس کا کون ہے۔“
”یہی تو ساری پریشانی ہے سر۔“
”آپ کی یہ پریشانی میں دور کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں

تو۔ ”منظور صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ جو اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آکر کھڑا ہو گیا تھا۔

”میں آپ کو ابھی اسی وقت سات لاکھ دینے کو تیار ہوں اور واپسی کی کبھی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا ہوگی۔“ منظور صاحب کے کانوں میں دھماکہ ہوا تھا ان کا داغ جو انہیں خطرے کا سنگل دے رہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔

”سوچ کیا رہے ہیں منظور کریں فائدے کا سودا ہے۔ آپ کی بیٹی کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا علاج بھی ہو جائے گا۔“

”ندیم صاحب میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے اور کچھ عرصے میں اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔“ وہ اٹک اٹک کر بولے۔

”ہونے والی ہے نا، ہوئی تو نہیں اور مجھ جیسا داماد آپ کو کہاں ملے گا جو لہنے کے بجائے دے رہا ہے۔“

”بہت خوش رہوں گا آپ کی بیٹی کو۔“ منظور صاحب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے ترکیا۔

”ندیم صاحب! ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے ہاں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ منگنی ہو چکی ہے میں انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ رشتہ میری بیٹی کی پسند سے ہوا ہے اور پھر آپ شادی شدہ ہیں، تین بچوں کے باپ ہیں۔“

ندیم نے زور سے ہاتھ ٹیبل پر مارا ”یہ آپ کا مسئلہ نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں میں آسانی سے دوسری شادی انورڈ کر سکتا ہوں اور جو چیز پسند آجاتی ہے میں اسے حاصل کر کے چھوڑتا ہوں اور آپ کی بیٹی تو پہلی نظر میں میرے دل کو بھاگتی تھی۔“ منظور صاحب کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔

”پھر کیا کہتے ہیں؟“ وہ اب شلتا ہوا واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔

”میں معذرت چاہتا ہوں ایسا ممکن نہیں۔“ ندیم قریشی کے چہرے کی مصنوعی شرافت یک دم غائب ہوئی تھی۔

”جہاں ممکن کو ممکن کرنا مجھے آتا ہے۔ ابھی تک میں نے شرافت سے بات کی ہے لیکن لگتا ہے تمہارے بوڑھے

داغ میں گھسی نہیں، یہ تو تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں کوئی پیسہ دوں گا۔ دوسرا تمہاری بیٹی کو اٹھوانا میرے لیے کوئی

مشکل کام نہیں اور تیسرا اس دن جو میں نے فارم سائن

کروائے تھے، وہ لون کے لیے نہیں تھے بلکہ اس میں لکھا تھا کہ تم نے مجھ سے بیس لاکھ ادھار لیے ہیں جو ادا نہ کرنے کی صورت میں میں تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ لے سکتا ہوں۔“ وہ مکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ جبکہ منظور صاحب کا خون بالکل خشک ہو کر رہ گیا۔

”اتنا بڑا دھوکا۔“ وہ دکھ اور حیرت کے مارے اتنا ہی بول سکے۔

”اسے دھوکا نہیں عقل مندی کہتے ہیں میں تمہیں ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہوگا، تم اس کے خود مزہ دار ہوں گے۔“ منظور صاحب جب وہاں سے نکلے محاورہ ”نا نہیں حقیقتاً“ ان کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔

ساری بات سن کر حمید اللہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے منظور صاحب کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے دنوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام رکھا تھا۔

”میری سمجھ میں نہیں آ رہا حمید اللہ! کیا کروں اگر آگے کنواں ہے تو پیچھے کھائی ہے۔ میں علاج کے لیے پیسوں کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ یہاں عزت کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اس دن جب مال میں یہ خبیث آدمی ملا تھا، حسب پر

جمی نظروں سے مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس حد تک گرے گا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اوپر سے تابش بھی چلا گیا۔ جو میرے پاس رقم تھی وہ بھی تابش کو دے دی۔“

حمید اللہ نے چونک کر اسہیں دیکھا۔ ”کیوں؟“

”اسے دینی والی تھاب کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ جب آیا تو میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ میرا جو بھی ہے وہ حسب کا ہی ہے۔ تابش حسب کا بیوچ ہے حسب کے کام آئے گا۔“

”حسب کو پتا ہے۔“

”نہیں۔“ منظور صاحب نے سرنفی میں ہلایا ”میں اس کو بتاؤں گا بھی نہیں، وہ بہت جذباتی ہے سوچے سمجھے بغیر

ری ایکٹ کر دے گی۔ تابش کا ہی تو سہارا ہے۔“

”خیر سہارا اللہ کی ذات کا ہی ہوتا ہے، بہر حال تم کل سے جاب پر مت آنا۔“

”ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے۔ حمید اللہ تم میرا ایک کام کرو گے۔“

”ہاں بولویا۔“

”بہت نا عرصہ میں اسپتال میں رہوں حسب کو اپنے پاس رکھنا اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا مکان بیچ کر رقم حسب کے حوالے کر دینا اور اسے اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آنا۔“

”ہاں بولویا۔“

”بہت نا عرصہ میں اسپتال میں رہوں حسب کو اپنے پاس رکھنا اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا مکان بیچ کر رقم حسب کے حوالے کر دینا اور اسے اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آنا۔“

READING
Section

”کیسی باتیں کر رہے ہو منظور! تمہیں کچھ نہیں ہو گا تم اپنے ہاتھوں سے جبہ کو رخصت کرو گے۔“
 ”اللہ کرے ایسا ہو۔“ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولے۔



”یہ ایسا کون سا کام نکل آیا جو آفس والے آپ کو اتنی دور بھیج رہے ہیں۔“ وہ ان کا بیگ پیک کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بول رہی تھی۔
 ”بس بیٹا! مجبوری ہے۔“

”پاپا آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ جا ب چھوڑ دیں۔ ہمیں ضرورت نہیں۔ پہلے آپ کی صحت ہے۔“

”ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو بس یہ آخری ٹوز ہے پھر اس کے بعد آرام ہی آرام ہو گا۔“ وہ اس پر نظریں جما کر بولے۔

”تم بھی اپنا سامان پیک کر لو جب تک میں باہر رہوں گا۔ تم حمید اللہ کی طرف رہو گی۔ تم یہاں اکیلی رہو گی تو میں ادھر پریشان رہوں گا۔“

جب نے بیگ سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔
 ”ٹھیک ہے پاپا! لیکن آپ جلدی آجانا۔ میں زیادہ دن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔“ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر رہ گئے۔



”یہ تمہارا منہ کیوں سو جا ہے موڈ تو ٹھیک کر۔“ جب نے بے زاری سے نادیا کی شکل دیکھی۔

”جب! تم جانتی ہونا۔ ابو نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ اب اگر انہیں پتا چلا کہ تم باہر گئی ہو میرے ساتھ تو انہوں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہنا۔ میری شامت آجائے گی۔“

”ایک تو مجھے اس روک ٹوک کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب سے تم لوگوں کے گھر آئی ہوں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔“ اب کے وہ جھنجھلا کر بولی۔

اس سے پہلے نادیا اس کو کوئی جواب دیتی، ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ نادیا نے چونک کر اور جب نے سرسری سی نظر گاڑی سے اترنے والے تین لمبے چوڑے آدمیوں پر ڈالی۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نادیا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جبہ کا بازو تھاما اور بھاگنا شروع

کر دیا جبکہ اس افتاد پر جبہ بوکھلا کر اس کے ساتھ بھاگنے لگی۔

اتنے رش میں وہ بھاگتی لڑکیاں کچھ لوگوں کے لیے حیرت اور کچھ لوگوں کے لیے انجوائے منٹ کا باعث بنی تھیں۔ نادیا کو چھیننے کے لیے جو جگہ ٹھیک لگی تھی وہ ایک گارمنٹس شاپ تھی وہ اسی طرح جبہ کا بازو کھینچتی کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی۔ ”یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بتاؤ گی۔“ جبہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی جبکہ نادیا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کا اشارہ کیا اور خود وہ کاؤنٹر کی آڑ سے باہر چھانکنے لگی۔

”کیا کوئی کتا پیچھے لگ گیا تھا؟“ جب سے مزید چپ نہیں رہا جا رہا تھا۔

”یہی سمجھ لو۔“ نادیا بھینچی ہوئی آواز میں بولی۔
 ”کوئی مسئلہ ہے مس جی؟“ دکاندار جو کب سے ان دو لڑکیوں کا تماشا دیکھ رہا تھا آخر کار بول پڑا۔

”دراصل ہمارے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں ان سے چھیننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اب شاید وہ چلے گئے ہیں۔“ نادیا نے ایک بار پھر باہر دیکھتے ہوئے کہا۔

”آپ کی بہت مہربانی ہو گی اگر آپ کوئی ٹیکسی یا رکشہ ہمارے لیے ارجح کریں۔“

”کون لوگ ہیں وہ؟“ دو مجبور لڑکیوں کو دیکھ کر دکاندار کا پاکستانی خون کھول اٹھا تھا۔

”ان کو دفع کریں بس ہمارے جانے کا انتظام کریں اور دیکھیں پلینز بندہ آپ کا اعتماد والا ہو۔“

”آپ فکر نہ کریں یہاں مینٹیں میں ابھی آتا ہوں۔“ جب تو بس حیرانی سے نادیا کی باتیں سن رہی تھی جبکہ پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔

”یہ کیا اسٹوری ہے نادیا! کون ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔“
 ”بتاتی ہوں لیکن گھر جا کر۔“ سارا راستہ بھی ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر کے آگے پہنچتے ہی جب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔

”تم ندیم قریشی کو جانتی ہو؟“

”ندیم قریشی؟“ اس نے کچھ حیرت سے دہرایا۔
 ”اوہاں! پھر یاد آنے پر بولی، پاپا کا ایم ڈی۔“

”ہاں وہی۔ یہ اس کے آدی تھے۔“
 ”کیا؟“ وہ حیران ہوئی اس سے پہلے وہ مزید سوال کرتی

ردوازہ کھل گیا تھا ردوازے میں نادیا کی بہن پریشان چہرہ

لیے کھڑی تھی۔

”تمہیں کیا ہوا؟“ اس کو دیکھتے ہی دونوں بے ساختہ بولی تھیں۔

”باہر سے آتے ہوئے کسی نے ابو پر حملہ کیا ہے۔“ وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ نادیدہ تیزی سے حمید اللہ کے کمرے میں داخل ہو گئی لیکن وہ باہر رک گئی اسے اندر جانا مناسب نہیں لگا۔

”یہ کیا ہوا ابو آپ کو؟“ اسے نادیدہ کی پریشان آواز سنائی دی۔

”میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ جب باہر نہ جائے اور تم اسے لے کر چلی گئیں۔“ حمید اللہ کی غصیلی آواز پر جب نے پریشانی سے دروازہ کو دیکھا۔

”اس ندیم قریشی کو شک تھا کہ جب ہمارے گھر میں ہے اور میں نے ہمیشہ یہ ماننے سے انکار کیا وہ نظر رکھے ہوئے تھا ہمارے گھر پر۔ آج اس نے تمہیں اور جب کو ساتھ گھر سے نکلنے دیکھ لیا۔ ظاہر ہے اس کے شک کی تصدیق ہو گئی کہ جب ہمارے پاس ہے۔ اس نے نہ صرف مجھے جاب سے نکال دیا بلکہ میرا یہ حال کروایا ہے۔ مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر جب کو اس کے حوالے نہ کیا تو وہ میری بیٹیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔“

”نادیدہ کے ابو! میں نے آپ سے کہا تھا۔ کسی کی مصیبت آپ گلے نہ ڈالیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہمارے گھر خود تین جوان بیٹیاں ہیں۔ وہ گھنٹیا آدی اپنے پیسے کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے اگر آج اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے کل وہ ہمارے گھر بھی گھس سکتا ہے۔ کیا کریں گے آپ۔“

جب مزید خود کو نہیں روک سکی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آگئی۔ ان تینوں نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ جب حمید اللہ کو دیکھ رہی تھی جن کے بازو اور ماتھے پر پٹی باندھی تھی اور چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے۔

”انکل! کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ندیم قریشی کیوں میرے پیچھے پڑا ہے اور کیوں اس کے آدمیوں نے آپ پر حملہ کیا؟“

حمید اللہ نے نادیدہ کی طرف دیکھا۔

”در اصل اس نے انکل سے تمہارا رشتہ مانگا تھا لیکن انکل نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں۔ لیکن اس نے انکل کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کسی پپر پر

سائن کروا لیے جس کے مطابق وہ اس کے مقروض ہیں۔ اس نے انکل کے خلاف کیس کر دیا ہے کہ وہ رقم دیں یا اپنا مکان اس کے نام کر دیں۔ اور ہم نے تمہیں پاس رکھا ہے اس لیے وہ اب ابو کے پیچھے پڑ گیا ہے۔“

”مجھے پایا سے بت گئی ہے۔“ ساری بات سن کر وہ ایک جملہ بولی تھی۔

”پلیز انکل!“ اس نے بتی انداز میں حمید اللہ کو دیکھا۔ حمید اللہ نے فون نکال کر منظور کا نمبر ڈائل کیا وہ فون لے کر باہر آگئی۔ بیل جا رہی تھی۔ ساتویں بیل پر اسے منظور صاحب کی آواز سنائی دی تو آنسو بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ ”حمید اللہ خیریت ہے اس وقت فون کیا؟“ وہ شاید سو رہے تھے۔

”پاپا!“ وہ بمشکل اتنا بول سکی۔

”جب؟“ وہ جیسے حیران ہو کر بولے ”تم ٹھیک ہونا؟“

اب حیرانی کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ ”آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا پاپا! اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں آپ کے لیے اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ مجھے دوسروں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنی بڑی مشکل میں ہیں۔“ وہ ایک ہی سانس میں ان سے کتنے شکوے کر گئی تھی۔

”کیا بتایا ہے تمہیں حمید اللہ نے؟“ ان کی آواز میں لرزش اتر آئی تھی۔

”جو آپ کے ایم ڈی نے آپ کے ساتھ کیا۔ پاپا آپ مجھ سے تو بات کرتے اس نے دھمکی دی اور آپ ڈر گئے“ کیا وہ میری مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کر سکتا ہے۔“

”تم نہیں جانتیں جب! میں کتنا مجبور ہوں۔“ وہ تھکے تھکے انداز میں بولے۔

”لیکن میں کچھ نہیں جانتی پاپا! اب مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ آپ بتائیں۔ آپ کہاں ہیں۔“ وہ دونوں گالوں پر پھلے آنسو صاف کرتے ہوئے تیزی سے بولی۔

”جب! جذباتی مت ہو۔ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتیں یہاں جگہ نہیں۔“ وہ گھبرا کر بولے۔

”میں آپ کے ساتھ ہر جگہ پر رہ سکتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے پاپا! انکل کی فیملی کو ہماری وجہ سے کتنی پرالیم ہو رہی ہے اور میں اب انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی اگر آپ مجھے اپنا پتا نہیں دیں گے تو میں گھر چلی جاؤں گی لیکن

READING
Section

اب میں یہاں نہیں رہو گی میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں۔“

”جب! میری جان! وہ بے بس ہو کر بولے۔“

”مجھے کچھ نہیں سنایا!“

”فون حمید اللہ کو دو۔“ وہ فون لے کر انکل کے پاس آگئی اور ان کو فون دے کر کمرے میں آکر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔

تھوڑی دیر بعد حمید اللہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔
”جب بیٹا! یہ سراسر تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ منظور اس وقت پہلے ہی پریشان ہے۔ تم اس کی مشکل کو اور نہ بڑھاؤ۔“

”انکل میں آپ کی مشکل کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور پاپا اس وقت اکیلے سب برداشت کر رہے ہوں گے، میرا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ پلیز آپ مجھے مت روکیں۔“ وہ خاموش ہو گئے تھے جبکہ وہ تیزی سے سامان پیک کر رہی تھی۔



ٹیکسی اسپتال کے سامنے رکی تو اس نے حیرت سے سامنے دیکھنے کے بعد حمید اللہ کی طرف دیکھا جو اس سے نظریں چرا کر ٹیکسی سے اتر گئے تھے وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔

”انکل! ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟“ اس نے پریشان نظروں سے ارد گرد جاتے لوگوں کو دیکھا۔ حمید اللہ کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔

”انکل! پاپا ٹھیک ہیں نا؟“ انہیں اپنے پیچھے جب کہ کانپتی آواز سنائی دی تو انہیں اشات میں سر ہلانا پڑا لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ کسی انہونی کے احساس سے۔ حمید اللہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے بستر پر کوئی لیٹا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اسے پہچان نہیں سکی۔ لیکن جب اس شخص نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اپنی چیخ روکنے کے لیے اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں تک گئے تھے۔ جبکہ آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔

سامنے بستر پر لیٹا وہ لاغر شخص جسے وہ پہلی نظر میں پہچان نہیں سکی تھی وہ اس کا باپ تھا۔ صرف ایک ماہ پہلے جب اس نے آخری دفعہ انہیں دیکھا تھا وہ ایسے تو نہ تھے یہ تو کوئی اور ہی تھا، سر پر کہیں بالوں کا نشان نہ تھا ہڈیوں کا

دھانچہ سیاہ رنگ یہ کیا ہو گیا تھا۔

”حمید اللہ! میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔“ اس نے اپنے باپ کی آواز سنی لیکن اس میں بھی فرق تھا۔ وہ نحیف اور کانپ رہی تھی۔

”میں مجبور تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔“ منظور صاحب کی حالت کے پیش نظر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔

”جب!“ حمید اللہ نے قریب جا کر اسے پکارا جو دروازے کو اتنی مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی کہ اگر اس کا سہارا نہ ہوتا تو کب کی زمین پر گر چکی ہوتی۔ حمید اللہ اس کی حالت سمجھ رہے تھے انہوں نے اسے کنبھوں سے تھام کر سہارا دیا اسی سہارے کے ساتھ اسے بیڈ تک لے آئے۔

”جب! میری جان! ناراض ہے اپنے پاپا سے؟“ وہ ان کے بازو اور ہاتھ پر لگی ڈریس کی پروا کیے بغیر ان کے سینے سے لپٹ گئی اور اس کے بعد اتنی شدت سے روئی کہ پاس کھڑے حمید اللہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ شور کی آواز سن کر اندر آتی نرس یہ منظر دیکھ کر رک گئی اتنے دن سے داخل اس مریض کے صرف دو وزیٹر آئے تھے، آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ حمید اللہ کو اسے خاموش کرانے کا اشارہ کر کے باہر نکل آئی۔

”جب بیٹا! چپ کر جاؤ۔ تم اس طرح روڈگی تو منظور کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ دیکھو وہ بھی بد رہا ہے۔“ جب نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا جو روتے ہوئے مزید بے بسی کی تصویر لگ رہا تھا۔

”پاپا کو ہوا کیا ہے؟“ وہ کینسر وارڈ میں کھڑی تھی لیکن پھر بھی دل کو بہلانے کے لیے اس نے حمید اللہ سے پوچھا تھا۔
”کیو ہو رہی ہے ڈاکٹر سے راز میری بہت ہوتی ہے۔ ان کو امید ہے منظور ٹھیک ہو جائے گا۔“ حمید اللہ سے سننے کے بعد اس نے باپ کی طرف دیکھا۔

”پاپا! اتنا کچھ ہو گیا لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آپ کی تکلیف آپ کی پریشانی میں میرا کیا کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے میری ساری پریشانیاں اپنے سر لے لیں اور مجھے ایک پریشانی نہیں بتائی۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی اتنی بزدل ہے کہ مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ یوں اکیلے یہاں تھے اور میں وہاں آرام سے تھی۔ کون آپ کا یہاں دھیان رکھتا ہو گا۔“

”جب!“

”پلیز بابا! بولنے دیں مجھے۔“ اس نے گالوں پر تیزی سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ”وہ گھٹیا آدمی آپ کو دھمکیاں دیتا رہا اور آپ سنتے رہے۔ کیا اتنا آسان ہے کسی سے زبردستی شادی کر لینا۔“

”عزت کا پاس عزت داروں کو ہوتا ہے بیٹا! شادی کرنی ہوتی ناتو میں سوچتا بھی وہ تو صرف عزتوں سے کھیلتا ہے۔ اور ہمارے پاس سوائے عزت کے ہے بھی کیا اور اس کے لیے بڑا آسان ہے تمہیں نقصان پہنچانا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے طاقت ہے۔“

اب کے جب چپ کر گئی تھی اس بازار والے واقعے کے بعد وہ خود بھی ڈر گئی تھی لیکن باپ کو تسلی دینا بھی تو ضروری تھا۔

”بہر حال اب میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گی اور پلیز بابا مجھے خود سے دور نہ کریں۔“ وہ آنسو جو چند لمحوں کے لیے رکے تھے پھر سے برسنے لگے۔

وہ حمید اللہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ”انکل آپ مجھے گھر کی چابی دے سکتے ہیں۔ مجھے وہاں سے کچھ چیزیں لینی ہیں۔“

کچھ لمحوں کے لیے حمید اللہ بول ہی نہیں سکے ”کیا ہوا انکل! چابی آپ کے پاس نہیں۔“ ان کی اتنی لمبی خاموشی سے وہ بھی سمجھی۔

”بیٹا اس گھر پر ندیم قریشی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب یہ معاملہ عدالت والا ہو گیا ہے لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں پہلے ہی بہت مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اس سے مزید دشمنی مول نہیں لے سکتے اور تم یہ بھی جانتی ہو یہ علاج کتنا منگنا ہے۔ جتنی جمع پونجی تھی اس میں خرچ ہو رہی ہے جو تمہارا زیور تھا وہ بھی میں نے اصرار کر کے بیچ دیا۔ کیونکہ منظور کی زندگی زیادہ ضروری ہے۔ زندگی ہوگی تو سب کچھ بن جائے گا اور جو مزید کچھ رقم تھی۔ وہ اس نے تابش کو دے دی۔“

وہ جو صدے کے مارے زمین کو دیکھے جاری تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی اس کے یوں دیکھنے پر حمید اللہ کو اپنے جملے کا احساس ہوا جو وہ روانی میں بول گئے تھے۔

”تابش!“

”پلیز بیٹا مجھ سے مزید کچھ نہ پوچھو۔ منظور نے مجھے کچھ بھی جاننے سے منع کیا ہے۔“ وہ شرمندہ شرمندہ بولے۔

”انکل اب اور چھپانے کو رہ ہی کیا گیا ہے۔“ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔

”اچھا اب تم منظور کے پاس جاؤ۔ میں رات کو آؤں گا کھانا لے کر۔“ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن سر ہلا کر رہ گئی کیونکہ منع کرنے سے پہلے کوئی بند دوست کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی اندر آئی۔ ڈاکٹر جاچکا تھا اور بابا آنکھیں بند کیے لیٹے تھے وہ سوئے تھے یا جاگ رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی وہ ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی اور دیر تک ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور بے آواز روتی رہی۔

”السلام علیکم انکل!“ وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی جب اجنبی آواز پر حیرت سے پلٹی۔

”و علیکم السلام! کہاں تھے تم دو دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔“ اب کے اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس اجنبی کو دیکھتے ہی بولنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکی کیونکہ وہ اس کی طرف پشت کیے میز پر پھل اور جوس رکھ رہا تھا۔

”بہت معذرت چاہتا ہوں انکل! ضروری کام نہ ہوتا تو میں ضرور آتا۔“ وہ کہتے ہوئے مڑا تو اس پر نظر پڑتے ہی جہاں وہ حیران ہوئی وہاں وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔

”جب! تم نے پہچانا یہ اور اب ہے۔ میں جب سے یہاں ہوں تب سے یہ آ رہا ہے۔ بہت خیال رکھا ہے اس نے میرا۔“ منظور صاحب نے بڑے پیار سے اس کا ذکر کیا جبکہ وہ اسی پر نظر لگائے مسکرا رہا تھا۔

جب کی نظروں میں اب حیرت کی جگہ ناراضی اور غصے نے لے لی تھی۔

”ظاہر ہے جب آپ اپنی تکلیف غیروں کو بتائیں گے اور اپنوں سے چھپائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔“

”ایسا کچھ نہیں میں تو اتفاقاً یہاں آیا تھا تو انکل سے ملاقات ہو گئی۔“

”میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔“ جب نے بڑی بد تمیزی سے اسے ٹوک دیا تھا۔

اس سے پہلے وہ تینوں آپس میں مزید کوئی بات کرتے، دراب کا فون آگیا وہ معذرت کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔

”جب! یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ تم نہیں جانتیں اس بچے نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، محسن ہے وہ ہمارا۔“ اب کہ اس کا غصہ بے بسی میں بدلا تو آنسو نکل آئے۔

”پاپا! کیا آپ نے سوچا کہ آپ کا محسن کیا سوچتا ہو گا ہر ایریا غیر ایسا آتا ہے سوائے آپ کی بیٹی کے کیسی بے حس بیٹی ہے جیسے باپ کی بردہ ہی نہیں حالانکہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے پاپا نے مجھے غیر گردیا ہے۔“

”حبہ! منظور صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔“
 ”بار بار ایک بات کر کے مجھے تکلیف مت دو اور دراب ایسا نہیں اور نہ ایسا سوچے گا۔ میں نے اسے سب بتا دیا تھا۔“ آنسو صاف کرتے حبہ کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔

”سب کیا بتا دیا تھا؟“

”اپنی بیماری کا۔ ندیم قریشی کی حرکت کا۔“
 ”او میرے اللہ! پاپا اس کی کسر رہ گئی تھی ایک اجنبی کے سامنے آپ نے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا۔ کیا سوچتا ہو گا وہ۔“ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں مگر لیا۔

”وہ ایسا نہیں۔“

”آپ کو کیا پتا وہ ایسا نہیں۔ کیا پتا وہ بھی ندیم قریشی کا بندہ ہو۔“

”اتنا پاگل نہیں حبہ! عمر گزاری ہے ان آنکھوں کو لوگوں کی پہچان ہے۔“ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں یہ ان کی ناراضی کا اظہار تھا۔



اسے یہاں پاپا کے ساتھ رہتے دو ہفتوں سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے پاپا کو گھر لے کر جاسکتی ہے اور وہ اسی سوچ میں تھی کہ کہاں جائے۔ حمید اللہ انکل کتنے دنوں سے نہیں آئے تھے اور وہ دراب روز آجاتا تھا اور اسے جتنا برا لگتا تھا۔ پاپا اسے دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے تھے۔ اب تو وہ بھی غصہ نہیں کرتی تھی۔ ایک تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ دو سزاوہ ہر زحمت سے بچی تھی۔ کھانا دوانی و پھل جو سب وہ لے آتا تھا۔ ایک دن اس نے پیسے دینے چاہے تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا وہ انکل سے حساب کرے گا اور وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی بحث کا مطلب بات کرنا جو اسے پسند نہیں تھا۔

ایک رات پاپا کی طبیعت پھر اچانک خراب ہو گئی ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اب بھی وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب حمید اللہ انکل اندر آئے تھے ”سوری تمہیں

بیٹا؟“ اس کی مندی مندی آنکھوں کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔
 ”بس انکل کل اچانک پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تو سو نہیں سکی۔ آپ کو بہت فون کیا لیکن آپ نے فون اینڈ نہیں کیا۔“

”سوری بیٹا مجھے پتا نہیں چلا ہو گا پچھلے دنوں مصروفیت بہت رہی ناویہ کی ڈیٹا فکس ہو گئی ہے نا تو گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔“

”اچھا“ وہ ایک دم خوش ہو کر بولی ”آپ کو بہت مبارک ہو انکل! اور ناویہ اس نے مجھے ایک کال تک نہیں کی۔“ وہ ایک دم بولی تو حمید اللہ صاحب نظریں چراگئے۔
 ”وہ شاپنگ میں مصروف تھی نا میں کہوں گا اس سے جا کر۔“ وہ ان کی نظریں چرانا محسوس کر گئی تھی سو سر ہلا کر رہ گئی۔ اس گریز کی وجہ وہ سمجھ گئی تھی اور وہ جو انکل سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ پاپا کو کچھ دن ان کے گھر لے چلے۔ اس نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ ”منظور کی طبیعت اب کیسی ہے۔“

”وہی ہی ہے انکل۔“ وہ مجھے ہوئے انداز میں بولی۔
 ”بیٹا یہ طبیعت میں اونچ نیچ تو اب چلتی رہے گی تم کتنی دیر یہاں اسپتال میں رہو گی۔ تھوڑے دن اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ یوں تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں تمہیں گھر لے چلتا لیکن وہاں شادی کی وجہ سے کافی مہمان آئے ہیں اور حالات بھی ابھی سنبھلے نہیں۔ وہ ندیم قریشی کے لوگ ابھی بھی۔“

”ٹھیک ہے انکل! میں سمجھتی ہوں آپ کو اتنی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔“ حمید اللہ صاحب خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تب ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بول اٹھا۔ انٹر نیشنل کال تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔

”کیسی ہو؟“ تابش کی کال تھی ”ٹھیک ہوں اور انکل کیسے ہیں؟“

”پاپا ٹھیک نہیں اسپتال میں ہیں۔“

”ہاں میں جانتا ہوں۔“

”تم کیسے جانتے ہو؟“ وہ حیران ہوئی

”میں نے گھر فون کیا بند جا رہا تھا تو انکل کے سیل پر کیا تو انکل حمید نے انکل کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ سچ مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا۔ جب میں گیا تھا تو انکل اچھے بھلے تھے۔“

جب نے ہونٹ بھیج لیے کیونکہ آنسوؤں نے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔

”پر تم یہاں انکل تو بتا رہے تھے کہ تمہیں نہیں پتا۔“
 ”ہاں! وہ آنسو صاف کر کے بولی اور پھر اس پر جو گزری تھی اس نے سب تابش کو تادی۔“

”تم بتاؤ! اب میں کیا کروں۔ میں حمید اللہ انکل کی طرف بھی نہیں جاسکتی میری وجہ سے وہ کہیں مزید مشکل میں نہ آجائیں میں سوچ رہی تھی خالہ کی طرف چلی جاؤں۔“

”نہیں تم وہاں مت جاؤ جو آدمی اتنا طاقت ور ہے کہ حمید انکل کے گھر پہنچ سکتا ہے بازار میں اتنے رش میں غنڈے پیچھے لگا سکتا ہے۔ وہ میرے گھر بھی پہنچ سکتا ہے اور وہاں میری ماں، میری بہن اکیلی ہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہاری غلط حرکت کی وجہ سے میری ماں مشکل میں آئے یا میری بہن کے نام پر تہمت لگے۔“

جب کو لگا کسی نے اس کے وجود کو آگ لگا دی ہو۔ اس کے کان کی لویں جل اٹھی تھیں۔

”یہ تم نے میری میری کی کیا گردان لگا رہے؟ وہ تمہاری عزت ہیں اور میں کیا ہوں اور دوسرے مجھے یہ بتاؤ میں نے کیا غلط حرکت کی ہے۔“

”پلیز جب! اتنی بھولی مت بنو میں تمہاری پنگالینے والی عادت سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ دوست کو لے کر ریسٹورنٹ نہیں پہنچ گئی تھیں تم اس آدمی کو تم نے شہرہ دی ہو گی ورنہ وہ اتنی جرات کر سکتا تھا تمہاری سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجاتی ہے جب!“

”تم ہوش میں تو ہونا تابش! تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو۔ شک کر رہے ہو۔“ وہ ارد گرد کی پروا کیے بغیر چیخ اٹھی تھی۔

”اتنی دور بیٹھ کر شک نہ کرو تو اور کیا کروں۔“ وہ بڑبڑایا لیکن بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ اسے صاف سنائی دی۔

”ہیلو!“ اس کی طویل خاموشی پر وہ چیخ کر بولا۔

”بولو! وہ بے صوت انداز میں بولی۔

”مجھے پتا ہے۔ انکل کو اور تمہیں میری ضرورت ہے اگلے ہفتے میں آ رہا ہوں۔“

”اپن احسان کے لیے شکریہ۔“

ایسا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت کتنی بے بس تھی کہ ایک شخص جس نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ کی محتاج تھی۔

وہ بیٹی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بھی سامنے کھڑے دراب نے بغور اس کا سرخ چہرہ اور آنکھیں دیکھیں اور کچھ کہے بغیر مڑ گیا جبکہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ کیا اس نے کچھ سنا ہے یا نہیں اگر سنا تھا تو... وہ ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ اور پھر جتنی دیر وہ منظور صاحب کے کمرے میں رہا وہ باہر کو ریڈور میں پہنچ رہی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب رگتے دیکھا تھا۔ لیکن وہ یونہی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ آگے بڑھ گیا۔

”کہاں چلی گئی تھیں بیٹا؟“ اسے دیکھتے ہی منظور صاحب تیزی سے بولے۔ ”باہر تھی۔“ وہ سر جھکا کر ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔

”کیا بات ہے کوئی بات ہوئی ہے۔“ انہوں نے بغور اس کی اتری ہوئی شکل دیکھی۔

”پاپا تابش کا فون آیا تھا۔“ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔

”اسے لگتا ہے کہ۔“ کہنے کے ساتھ اس نے باپ کی شکل دیکھی تو باقی الفاظ منہ کے اندر دبا لیے۔

”وہ تمہیں ہی غلط کہہ رہا ہو گا۔“ انہوں نے جیسے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ جب نے آنکھوں میں آنے والے آنسو تیزی سے صاف کیے۔ منظور صاحب نے گہرا سانس لیا۔

”مجھے لگتا ہے جلدی میں مجھ سے غلط انتخاب ہو گیا۔ تابش وہ نہیں جیسا چون سا تھی میں نے تمہارے لیے چاہا تھا۔ افسوس دراب مجھے بہت دیر بعد ملا۔“ جب نے چونک کر باپ کی شکل دیکھی۔

”وہ تعلیم یافتہ ہے۔ جب نہ ملنے کی وجہ سے عکسی چلا رہا ہے۔ پھر اتنا نیک اور شریف ہے۔ اس نے اشارتاً تمہارا۔ رشتہ بھی مانگا تھا لیکن تابش کی وجہ سے میں جواب نہ دے سکا۔“

”آپ کے نزدیک ”وہ“ شخص میرے لیے بہترین انتخاب تھا۔“ اس کا سارا زور وہ پر تھا۔

”ہاں کیونکہ وہ مطلب پرست اور لالچی نہیں۔“
 ”ہنہ، آج کل کے دور میں اپنا اتنا نہیں کرتا تو وہ کیوں اتنا کر رہا ہے۔ مطلب ہے اس کا اور وہ اس نے ظاہر بھی

کر دیا۔

”کیا مطلب؟“ منظور صاحب نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔

”کچھ نہیں۔ آپ آرام کریں۔ میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتی ہوں“ اور اسے واقعی مازہ ہوا کی ضرورت تھی کیونکہ اس کا داغ آگ کی بھیٹی کی طرح جلنے لگا تھا۔ ایک طرف تابش کی باتیں دوسری طرف اس دراب کی جراثیم اور بری قسمت دراب کی وہ سامنے سے ہی آرہا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رخ موڑ گئی۔

”خیریت۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟“

”کیوں؟ میں یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی۔“ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی جو اب اسے ”وہ کچھ یاد کر کے مسکرایا۔“

”تم تو کہیں بھی کھڑی ہو سکتی ہو۔“ یہ کہہ کر وہ سنجیدہ ہوا۔

”میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انکل کی کیمو میں کچھ دن ہیں تو اگر ہم چاہیں تو انہیں گھر لے کر جاسکتے ہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو انکل میرے گھر رہ سکتے ہیں۔“ اس نے احتیاطاً اس کا نام نہیں لیا تھا۔

”ایک منٹ۔ آج ذرا سب باتیں کلیئر ہوئی جائیں۔“ وہ دونوں ہاتھ سینے پر پٹیٹ کر بولی۔ ”آپ نے کیا ہمیں لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ میں کون آپ ہمارے جو ہم آپ کے گھر جائیں اور کیوں آپ دن رات میرے پیپا کی عیادت کو آجاتے ہیں۔ میں حیران تھی۔ ہم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ بھی پتا چل گیا۔ کب سے پیچھا کر رہے ہیں میرا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یوں میرے پیپا کی خدمت کر کے آپ مجھ سے شادی کر لیں گے، کیا ہیں آپ، ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور۔“

”تو ٹیکسی ڈرائیور انسان نہیں ہوتے انہیں شادی کرنے کا حق نہیں ہوتا۔“ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔

”ہاں، تاہوگا، لیکن کسی اپنی جیسی کے ساتھ، آپ ہیں کیا؟ میں یہ پوچھتی ہوں آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کی خواہش بھی بیان کرنے کی، میری منگنی ہو چکی ہے۔“ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر تیسری انگلی میں پنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا ”اور وہ بھی میری پسند سے وہ ایم بی اے ہے، اچھی پوسٹ پر ہے وہ بھی دہلی میں، اس کا بیوچہ براہ راست ہے۔ خود کو دیکھیں۔ کیا ہے آپ کا بیوچہ اور کیا دے

سکیں گے اپنی بیوی کو، میں بل ماسٹرز ہوں۔ میرے پیپا ایک بڑے عمدے پر ہیں ہمارا ایک لیونگ اسٹائل ہے اگر میری منگنی نہ بھی ہوئی ہوتی تو میرے ابھی اتنے بڑے دن نہیں آئے کہ میں آپ جیسے تھوڑا کلاس آدی سے شادی کروں۔ سو برائے مہربانی اپنی یہ جھوٹی ہمدردی اور مہربانی کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں سے تشریف لے جائیں اور آئندہ میں آپ کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتی۔“

وہ جو منہ میں آیا کہتی تھی اس نے غور ہی نہیں کیا کہ سامنے والے کا کیا حال ہوا ہے اور نہ وہ یہ دیکھنے کے لیے رکی تھی۔



”حبیب! وہ جو اپنے دھیان میں سبب کاٹ رہی تھی چونک کر دیکھنے لگی۔“

”دراب نہیں آیا؟“ وہی سوال جو وہ پچھلے ایک ہفتے سے پوچھ رہے تھے۔

”نہیں بابا!“

”پتا نہیں کیا بات ہے، وہ تو ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتا۔ اب پورا ہفتہ وہ بھی بنا بتائے، تم ذرا کال کر کے پتا تو کرو۔“ اس نے چھری زور سے پلیٹ میں پٹی۔

”پیپا! میں آپ کے پاس ہوں پھر بھی آپ بار بار اسے کیوں یاد کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا نوکر تو نہیں اور نہ کوئی رشتہ دار ہے۔“

”لیکن رشتہ داروں سے بہت بہتر ہے۔“

وہ ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ تابش کو پاکستان آئے تیسرا دن تھا اور وہ صرف ایک دن چند منٹوں کے لیے آیا تھا۔ اسے تو اس دن پتا چلا۔ اسے اسپتال سے دوائیوں کی بدبو سے الرجی ہے اور کل نادیہ کی شادی تھی اور انکل نے اتنا رسمی سا انوائٹ کیا تھا کہ اس کا دل مزید برا ہو گیا تھا۔ اوپر سے پیپا کی دراب دراب کی گردان اسے مزید تھنچلا ہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔

”حبیب!“

”جی بابا!“ وہ پلیٹ پکڑ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔

”تم نے تابش سے بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ فوری نکاح اور رخصتی ہو جائے۔“

حبیب نے گہرا سانس لیا یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے کیسے اپنی انا کو پس پشت ڈال کر تابش سے بات کی تھی۔

READING
Section

155 2015

ماہنامہ شعاع نومبر

”جی!“

”تو کیا کہا اس نے؟“ انہوں نے چھت پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔

”بقول اس کے خالہ نہیں مان رہیں۔ ایک تو وہ نورین کی شادی پہلے کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرے ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی شادی کے ان کو بہت سے ارمان ہیں۔“

”لیکن جب! وہ دیکھ نہیں رہے۔ ہماری مجبوریاں، میری زندگی کا کچھ بھروسا نہیں اور وہ ندیم قریبی کسی آئیٹب کی طرح دن رات میرے حواسوں پر سوار رہتا ہے اگر کچھ اور بچ بچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہو گا۔“

”پاپا!“ اس نے منظور صاحب کا ہاتھ بڑی آہستگی سے تھاما۔

”آپ دو ہم بہت کرنے لگے ہیں“ آپ ان شاء اللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ندیم قریبی کچھ نہیں کر سکتا اتنے دن ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے ہوں۔ کچھ ہوا۔“

”وقت کا تپا نہیں چلتا۔ کچھ ہو بھی ہو سکتا ہے میں جلد از جلد تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سوپنا چاہتا ہوں۔ تم تابش کو بلاؤ۔ میں خود بات کرتا ہوں۔“

”سین۔“ تب ہی نرس اندر داخل ہوئی تھی۔

”یہ انجکشن اور ڈرپ ہیں پلیز ڈاکٹر کے راونڈ پر آنے سے پہلے یہ لے آئیں۔“ جب نے پرچی تھامنے کے بعد منظور صاحب کو دیکھا۔

”پاپا! پیسے کہاں رکھے ہیں؟“ منظور صاحب نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔

”پاپا دادائی کے لیے پیسے چاہئیں؟“

”میرے پاں تو نہیں ہیں۔“

”کیا؟“ اسے جھٹکا لگا ”تو اتنی ڈھیری ددائیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔“

”درا ب لانا تھا۔“ اس نے اپنا سر تھام لیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔

”آپ نے اس کو پیسے دیے تھے؟“ وہ اٹک اٹک کر بولی۔

”نہیں ڈاکٹر اور اسپتال کے بل کے بعد جو پیسے بچے تھے وہ میں نے حمید اللہ کو دیے تھے۔ باقی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے تھے کہ دوائیوں کا جو خرچ ہو وہ تم سے لے لیا کرے۔“

”پر مجھ سے تو کسی نے پیسے نہیں مانگے۔“ وہ تو سر پکڑ کر

بیٹھ گئی۔

باہر نکلتے ہی اس نے تابش کو فون کر کے آنے کو کہا تھا۔ میڈیکل اسٹور پر کافی رش تھا وہ باہر کھڑے ہو کر رش کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔

”تم کہاں ہو؟“ تابش کا میسج آیا تھا وہ اسے میڈیکل اسٹور کا پتا بتا کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تب ہی وہ اس کو دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے تابش کو حیران اور پھر رکتے دیکھا تھا وہ ابھی سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب اپنے قریب اسے آواز سنائی دی تھی۔

”مجھے امید تھی بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔“ وہ تیزی سے مڑی اور اس خبیث چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔

”ابھی ابھی میرے بندوں نے مجھے اطلاع دی کہ آخر کار محترمہ بل سے باہر نکل آئی ہیں تو سوچا کہ جا کر خود مل کر آؤں۔“

”سنا تھا کہ دنیا میں گھٹیا اور ذلیل لوگوں کی کمی نہیں پر آج تمہیں دیکھ کر یقین بھی آ گیا۔“ وہ نفرت انگیز انداز میں نڈر ہو کر بولی۔ جو اب ”تقبہ لگا کر ہنس بڑا۔“

”صورت کے ساتھ تمہارا انداز بھی ٹیکھا ہے۔ پسند آیا مجھے۔“ وہ اسے نظر انداز کر کے تابش کی طرف بڑھتا چاہتی تھی لیکن اس کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے تو جیسے کرنٹ لگا تھا بڑے بے ساختہ انداز میں اس کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ ایک پل کے لیے وہ اور اس کے ارد گرد کھڑے اس کے گن مین سب ہکا بکارہ گئے وہ شاید اس کی توقع نہیں کر رہے تھے یا آج سے پہلے اس آدمی کو ایسے پھٹر کا تجربہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے اگلا پل اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ندیم قریبی نے ایک اور پھر دسرا ٹھٹرا اس کے دونوں گالوں پر جڑو دیا تھا اور وہ کھڑے کھڑے بل گئی تھی اسے لگا اس کا جبرائٹوٹ گبا ہے۔

اس نے تڑپ کر تابش کو آواز دی تھی جو بت بنا دیکھ رہا تھا۔ میڈیکل اسٹور سے بھی لوگ باہر نکل آئے، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوئی ہے۔ پر اے پھڑے میں کون ٹانگ اڑاتا ہے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ پاٹلوں کی طرح تابش کو آوازیں دے رہی تھی جو بہرہ اور اندھا بھی بن گیا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے اس کا باپ ڈرنا تھا پر وہ کبھی نہیں گئی۔

اس کے زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ جنٹیلوں کی طرح اسے تھسٹ رہا تھا۔ اس کی چپل دوپٹہ وہیں مٹی میں رل گئے تھے۔ ددر کھڑے شخص نے پہلے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی اور لڑکی پر نظر پڑتے ہی جیسے ہی اس نے پہچانا اس نے تیزی سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا وہ اسے گاڑی میں دھکیل چکا تھا اور ساتھ ہی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تھی۔

”پاپا!“ وہ اب پاپا کو پکار رہی تھی اس کی چیخوں کے جواب میں ایک زوردار ٹھنڈا ہوا تھا اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا درد کی شدت سے وہ دوہری ہو کر رہ گئی۔ تب ہی گاڑی جھٹکے سے رکی اور تیز تیز آوازیں آنا شروع ہو گئیں گاڑی کے چاروں دروازے کھلنے کی آواز آئی اس کے ساتھ بیٹھے ندیم قریشی کو کسی نے تھسٹ کر باہر نکالا وہ دیکھ نہیں سکی وہ سوچ رہی تھی پتا نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔

”ڈالوان کو گاڑی میں۔ تمہارے میں نکلتی ہے ساری غنڈہ گردی۔“

”انسپکٹر تم جانتے نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے۔“

ندیم قریشی کی اونچی، لیکن ڈری ہوئی آواز سنائی دی۔

”سنا بھئی۔ کھلا کہہ رہا ہے بچو تو ابھی ہمیں نہیں جانتا۔ تیری پہنچ کی ایسی ہی ایسی چھتروں کدوں کا ناساری مروانگی نکل جائے گی۔“ انسپکٹر بھی شاید زیادہ پہنچ ڈالا لگ رہا تھا۔

”پلیز نو پکچر۔ ایک عزت دار گھر کی باہر وہ لڑکی ہیں آپ اس پہنچ والے کی لیں نا“ کسی نے نوٹو گرافر کو رد کیا تھا۔

یہ آواز۔ یہ آواز اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ وہ پشت کیے کھڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ رش چھٹتے ہی وہ مڑا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے چھپانے کے لیے یوں کھڑا تھا جب وہ مڑا تو اس نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف مڑ گیا تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چادر تھی جو اس نے اس کی طرف بڑھائی پر وہ یونہی ساکت بیٹھی رہی تو وہ گہرا سانس لے کر جھکا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا اور چادر کو اس کے سر ڈال کر پاؤں تک اسے ڈھانپ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر وہ شور مچا دیتی، لیکن یہ ہاتھ تو اب رہبر کے بن گئے تھے وہ نہیں جانتی تھی اس کی منزل اب کہاں ہے لیکن وہ اس وقت اس کی ہم سفر بن چکی تھی۔

وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی منزل کا تعین

کیے بغیر آخر وہ رکا تو وہ بھی رکی، چلتی زمین نے پیروں کو جھلسایا تھا، لیکن یہ جلن اس جلن سے بہتر تھی جو زندگی کا ناسور بن جاتی اس نے ایک گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیلنے کے انداز میں پھینکا۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گاڑی کی پھیلی نشست ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی تھی وہ اس بڑی سی چادر میں پوری طرح ڈھانپ دی گئی تھی۔ اب پتا نہیں وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔

”سب ٹھیک ہو گیا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔“ یہ آواز اس کی نہیں تھی یعنی گاڑی میں کوئی اور بھی تھا۔

”نہیں، اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی۔ اس خبیث پر مجھے کافی دنوں سے شک تھا۔ روزانہ انکل کو دھمکی بھرے فون کرتا تھا پر مجھ سے ٹریپ نہیں ہو رہا تھا۔ آج اگر تم مجھے فون نہ کرتے اور اپنے دوست کو نہ لے کر آتے تو۔۔۔“ وہ رک گیا تھا۔

”چھو ڈویار! تمہاری عزت میری عزت ہے۔“

”میرا تو پار کچھ نہیں، جو کیا انکل کے لیے کیا میں انکل کو تکلیف نہیں دے چاہتا تھا۔“ یہ یقیناً اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں۔

آج وہ اسے اگر ٹھنڈا بھی مار لیتا تو بھی اسے برانہ لگتا یہ تو معمولی بات تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں۔

گاڑی رک گئی تھی، وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔

”تم اب باہر نکلو گی؟“ وہ بڑے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ بھی کیا کرتی اس کو لگ رہا تھا اس کے وجود میں جان ہی نہیں۔

”اف!“ اس نے گہرا سانس لے کر اس کا بازو پکڑ کر اسے نکالا اور اب کی بار چادر کھسکا کر اس کے سر اور جسم کو اچھی طرح ڈھانپا اور اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا، لیکن نظر اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھنڈی وہ نظریں جھکائے نیم مردہ کیفیت میں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے روپال نکال کر بڑی آہستگی سے اس کے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کیا اور اب کی بار اسے وردہ داتا تھا اس نے آنسو سے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اس کے دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔

”جاؤ انکل! انتظار کر رہے ہوں گے۔“

اس نے روتے ہوئے سر نئی میں ہلایا۔

”انکل پریشان ہو رہے ہوں گے۔“

اشارہ کیا جسے وہ سمجھ نہیں سکی اور ایک بچی کی طرح سستی ہوئی ان کے سینے سے لگ کر اوپھی آواز میں رونے لگی۔
”کچھ تو بولو جبہ میرا دل میرے دل میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔“

”پاپا! وہ ندیم قریشی وہ زبردستی مجھے لے کر جا رہا تھا۔“
”آہ میں ڈرتا تھا اسی وقت سے ڈرتا تھا یہی خوف تھا۔
عث گیا برباد ہو گئے ہم برباد کر دی اس نے میری بچی کی عزت۔“ وہ ایک دم رونے کر لگنے لگے اور ساتھ ہی ان کی ساکسیں بھی اکٹرنے لگیں۔ جبہ اپنا صدمہ بھول کر باپ کو سنبھالنے لگی۔

”پاپا! پاپا! اور اب ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔“
”پاپا میں ٹھیک ہوں پاپا میں آپ کے سامنے ہوں۔“
وہ رورو کر رہی تھی پر وہ اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے ڈر کے مارے جبہ کے آنسو ٹھنڈے کر رہ گئے۔
”پاپا! پاپا!“ وہ زور زور سے ان کو آواز دینے لگی۔ دراب ڈاکٹر کے ساتھ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔
”ڈاکٹر پاپا بول نہیں رہے۔“ اس کی حالت اس وقت بالکل بالکل جیسی لگ رہی تھی۔
”آپ پلیز باہر چلیں۔“

”نہیں میں پاپا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔“
”پلیز۔ آپ انہیں باہر لے جائیں۔“ زس نے اب دراب سے کہا تھا۔ وہ اسے زبردستی باہر لے آیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دیوار سے جا لگی جبکہ دراب دو سری دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔
تین گھنٹے گزر گئے تھے منظور صاحب کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ تابش، خالہ اور نورین بھی آگئے تھے۔ حمید اللہ کو اس نے اطلاع کر دی وہ بھی پہنچ گئے۔ وہ اب تنہا نہیں تھی اس کے سب اپنے وہاں موجود تھے۔ تو وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ تابش دو تین مرتبہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ ”تم ٹھیک ہو۔ یہ زخم کیسے آئے؟“ اس کے دل اور زبان برشک تھا۔

”کہاں گئی تھیں۔ کہاں لے کر گیا تھا، واپس کیسے آئیں؟“ اس کے پاس یہ سوال تھے اور جواب میں اس کے پاس ایک ہی چپ تھی وہ صرف اپنے باپ کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ اس گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے خوش خبری دی کہ اس کے پاپا ہوش میں آگئے ہیں لیکن ان کو روم میں شفقت نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ ان سے ملنے آئی

”آپ بھی چلیں“ وہ کسی ننھے بچے کی طرح بولی۔
”تم چلو میں آتا ہوں۔“ وہ اس کی طرف دیکھ کر دھیرے دھیرے چلتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔
”ابھی تمہیں فرق نہیں پڑتا تو اس کا خون دیکھ کر مرنے والے ہو رہے تھے۔“ فیروز نے اسے طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔

”بکو اس بند کرو یا را میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔“ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔
”پریشانی کا حل ہے تمہارے پاس اپنے نام کر لو۔“
”وہ کوئی چیز ہے جسے اپنے نام کر لوں۔ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی۔“

”تو اسے بتا دو کہ تم کتنے اچھے ہو۔“ فیروز کو اب بھی مذاق سوچ رہا تھا۔
”اچھا پلیز زیادہ باتیں نہ کرو اس ندیم قریشی کا پکا بندوبست کرو آئندہ یہ جبہ کے آس پاس بھی نظر نہ آئے ورنہ تم پیٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں۔“
”کمال ہے یا را! جبہ تمہاری اور میری کٹ خوا مخواہ لائینڈ آرڈر کی اتھارٹی میں نے نہیں لے رکھی۔ کوشش ہی کر سکتا ہوں۔“
”کوشش نہیں پکا کام۔“

”پکا کیا موادوں؟“
”ہاں مواد۔“ فیروز نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔
”بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے تو یار محبت میں۔ صبح کہتے ہیں یہ عورت ہوتی ہی فساد کی جڑ ہے۔“ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔

”اگر بک چکے ہو تو جاؤ۔“ وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب کہ فیروز مسکراتے ہوئے بشیر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔

جب تک وہ اندر داخل ہوا وہ کوریڈر تک پہنچی تھی۔ شاید اسے کہیں اور بھی چوٹ لگی تھی وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے ہم قدم ہوا اور پھر رک کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔

”کہاں رہ گئی تھیں جبہ۔“ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی منظور صاحب بے تابی سے بولے اور اس پر نظر پڑتے ہی جیسے ان کا رنگ سیاہ سے نیلا پڑنے لگا۔
”یہ کیا ہوا جبہ!“ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا دراب نے اسے

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

دامنی کا ثبوت دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا کوئی فرشتہ اترے گا۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا کردار مشکوک ہو۔“

جب نے ایک جلتی نظر تابش پر ڈالی اور ہاتھ میں ہنسی اٹھوٹھی نکال کر اس کی طرف برعنائی۔ ”میں بھی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ تمہارے سامنے وہ شخص مجھے گھسیٹ کر لے جاتا رہا اور تم اندھے بہرے بنے دیکھتے رہے۔ خیر میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ جاسکتے ہیں۔“

”ارے دیکھو ذرا اس لڑکی کی اکر۔“ خالہ نے تو باقاعدہ اپنے گال پیٹے تھے۔ ”چلو بھی تمہیں کیا لڑکیوں کی کمی ہے۔ یہی رہ گئی ہے ہمارے لیے۔“

”اور ایک بات جو پیسے تم نے میرے پاپا سے لیے ہیں، وہ مجھے چاہئیں وہ بھی پورے۔“ وہ تینوں ہکا بکا ہو کر رہ گئے۔ لیکن وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور اس کے پیچھے حمید اللہ بھی۔

”پاپا! کچھ چاہیے۔“ وہ ان کے قریب جھک کر پوچھنے لگی۔

”ڈرا ب آیا؟“ ان کا وہی سوال تھا۔

”میں نے فون کیا ہے پاپا۔“ وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ کمرے میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوا اور سیدھا منظور صاحب کے قریب بیٹھ گیا اور اٹھ کر سائیڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔

”مجھے پتا تھا۔ تم ضرور آؤ گے۔“ منظور صاحب اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ”آج تم نے پھر بہت بڑا احسان کر دیا۔ جب نے بتایا مجھے۔“

”میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انکل! میں آپ کی بیٹی کی پوری حفاظت کروں گا پھر آپ نے اپنی طبیعت کیوں خراب کر لی؟“ وہ ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا۔

”مجھے تم پر یقین تھا۔“ وہ مسکرائے۔ ”ایک مرتے ہوئے آدمی کی آخری خواہش پوری کرو گے؟“

”انکل!“

”مجھے کہنے دو بیٹا! زیادہ وقت نہیں میرے پاس۔“ وہ بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ”میری بیٹی سے شادی کر لو۔“

جب کو حیرت نہیں ہوئی بلکہ آنسو تھے کہ گرتے جا رہے

تھی۔

”پاپا!“ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔

”پاپا!“

”ڈرا ب!“ اس کی دوسری پکار پر انہوں نے اس کا نام لیا تھا۔

”پاپا پلیز مجھ سے توبت کریں۔“ وہ ان سے التجا کر رہی تھی۔

”ڈرا ب!“ وہ دوبارہ بھی یہی بولے۔

پاپا کے موبائل سے اس نے ڈرا ب کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری بیل پر اس کی حیران آواز سنائی دی۔

”میں ہوں۔“ وہ بہت دھیمی اور شرمندہ آواز میں بولی جو اب ”دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔“

”پاپا بار بار آپ کو یاد کر رہے ہیں اگر آپ آجائیں تو آپ کا بہت احسان ہو گا۔“ اس نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اگر وہ نہ آیا تو وہ پاپا کو کیا جواب دے گی۔

”جب! میں کب سے تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔“ اب کی بار تابش غصے سے اس کے سامنے آکر گھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز پر خاموش کھڑے حمید اللہ خالہ اور نورین نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔

”میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں۔“ وہ بہت دھیمی لہجے میں بولی۔ ”جواب تو تمہیں دینا ہو گا۔ ایک آدمی تمہاری نظروں کے سامنے مجھے لے گیا اور تم بے غیرتوں کی طرح تماشا دیکھتے رہے۔“

”زبان سنبھال کہ بات کرو۔ ایک لڑکی جو چند گھنٹے بھی گھر سے باہر نہ آئے اس کی عزت مشکوک ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ تم صفائی دو۔ تم ہمیں اکڑو کھاری ہو۔ احسان مانو کہ ہم ابھی بھی یہاں کھڑے ہیں۔“

یہ اس کی خالہ تھیں جو مستثنیٰ کرتے وقت صدقہ واری جاری تھیں۔ زبان اور آنکھوں سے شعلے اگلتا اس کا کزن تھا جو بچپن سے پسندیدگی کا دعو کرتا تھا اور اس کی کزن جو اس کو آئیڈیل مانتی تھی وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔

”میں کتنی داغ دار ہوں یا کتنی پاکدامن، یہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔“

”اور تم حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں جن کی پاک

تھے اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کیوں کہ وہ بھی اس کی طرح بے وقعت ہو چکے تھے۔
 ”انکل! آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔“
 ”یہ جواب نہیں بیٹا!“ انہوں نے دراب کا چہرہ تھام کر کہا۔

”انکل! میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں۔“ ایک تھپڑ تھا جو حبیہ کے منہ پر لگا تھا۔

”تم کس قابل ہو۔ یہ میں جانتا ہوں، میری بیٹی نادان ہے پر دل کی بہت اچھی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں لیکن میری سانسیں میرا وجود نہیں چھوڑ رہیں۔ میں حبیہ اس کو مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں، کہاں جائے گی، کون اپنا ہے، سارے نوج کرکھا جائیں گے۔ میری بیٹی کو اپنالو۔ بس اپنا نام دے دو۔ تھوڑا سہارا دے دو اور کچھ نہیں مانگتا۔“ وہ گڑگڑا رہے تھے۔

اتنی بے کسی، بے بسی حبیہ نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سارے زمانے سے لڑ جاتی۔ منظور صاحب کی سانس اکھڑنے لگی تھی ایک افراتفری پھر پھیل گئی تھی ڈاکٹر نے انجکشن لگایا تو وہ غنودگی میں چلے گئے تھے۔
 ”حبیب! کچھ کھا لو بیٹا!“ حمید اللہ اس کے لیے بسکٹ اور چائے لے کر آئے تھے۔

”مجھے بھوک نہیں انکل! میں آتی ہوں۔“ وہ ایک دم تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کو دیکھ کر وہ حیرت سے رک گیا۔ اس نے جو کہتا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے نظریں اس کے قدموں پر گاڑ دیں۔

”میں نے اس دن آپ سے جو کہا۔ میں اس کی معافی مانگتی ہوں حالانکہ میں معافی کے قابل نہیں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔“ اس نے کہنے کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیے۔

”یہ کیا کر رہی ہیں۔“ وہ یک دم بولا تھا۔
 ”آپ مت جائیں۔ پایا اٹھ کر آپ کا پوچھیں گے، مجھ پر ایک احسان اور کر دیں، مجھ سے شادی کر لیں۔“

یہ اس نے جس طرح بولا تھا وہ سو دفعہ مری تھی اس کی خاموشی پر اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیٹ بیچیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کو بچپن کا پڑھا ہوا

محاورہ یاد آ گیا۔

”غور کا سر نیچا ہوتا ہے، بڑے بول نہ بولو۔“

”میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ بیوی کا حق بھی نہیں۔ آپ دوسری شادی کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن میرے پایا کو سکون دے دیں۔“ اس نے اپنے بندھے ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔

”تمہیں یاد ہے، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔“ وہ کچھ نہیں بولی۔

”میرے پاس کوئی ڈگری، کوئی بینک بیلنس نہیں۔“
 ”آپ مجھ سے شادی کر لیں۔“ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔

”ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کسی کو بلانا ہے تو بلالو۔ میں اپنے چند دوستوں اور نکاح خواں کو لے کر آتا ہوں۔ نکاح ابھی انکل کے سامنے ہو گا۔“ اس نے منٹوں میں فیصلہ کیا تھا اور مڑ گیا اور وہ بھی مڑ گئی منزل ایک ہونے کو تھی پر راستے الگ تھے۔

”پاپا! دراب قاضی کو لینے گئے ہیں۔“

اس نے باپ کے کان میں آہستگی سے کہا۔ وہ تو جیسے اسی جملے کے خطر تھے انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جیسے تصدیق چاہتے ہوں، وہ بمشکل مسکرائی۔ جب اس نے حمید اللہ کو بتایا تو وہ کافی حیران ہوئے، لیکن پھر فون پر پتا نہیں کس کس کو اطلاع دی تھی۔ نادیدہ بھی اس کا کام دار جوڑا لے کر پہنچ گئی تھی۔ جو سامان ان کے گھر تھا اور یہ جوڑا شادی کے لیے ہی تھا، لیکن تب نام کسی اور کا تھا اس کے نہ نہ کرنے کے باوجود نادیدہ نے زبردستی اسے سوٹ تبدیل کروایا تھا اور وہ حیران رہ گئی۔ پاپا اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میسون روپے میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی وہ دمک رہی تھی۔

منظور صاحب کتنی دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ پتا نہیں کتنے ارمان تھے ان کے، دراب جن کپڑوں میں گیا تھا۔ ان ہی میں واپس آ گیا تھا اس کے ساتھ سوڈو بوٹڈ چار لوگ تھے جن کی حیرت ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ واحد برات تھی جس میں براتیوں کی جگہ اسپتال کے اسٹاف نے شرکت کی تھی۔ نکاح ہوتے ہی منظور صاحب نے دونوں کو گلے لگایا۔ دراب تو مل کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ اتنا روٹی کہ وہاں موجود سب لوگ رنجیدہ ہو گئے۔ نادیدہ نے بڑی مشکل سے اسے پیچھے کیا۔

”ذرا اب میرے بچے! تم فرشتہ بن کر میری زندگی میں آئے ہو۔ تمہارا احسان میں سر کر بھی یاد رکھوں گا۔ تمہاری یہ نیکی تمہارے کام آئے گی، میری بچی کا خیال رکھنا۔ یہ نادان ہے، جذباتی ہے، پر بہت محبت کرنے والی اور نیک ہے۔ تمہارے حوالے کی میں نے اپنی زندگی۔“

انہوں نے پاس بیٹھی جبہ کا ہاتھ پکڑ کر دراب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دراب نے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔

”جبہ! ہمیشہ دراب کا خیال رکھنا۔ کیوں کہ تمہارا باپ دراب کا احسان مند ہے اور تم کو بھی رہنا ہے۔“

”پلیز انکل!“ دراب نے انہیں مزید بولنے سے روکا تھا۔

”لب تم جاؤ۔“ جبہ نے حیرت سے ان کو دیکھا۔

”حمید اللہ! آج میرے پاس رکے گا۔ اب میں بہت بہتر ہوں بلکہ آج مجھے سکون ملا ہے۔ لگتا ہے، سارا درد ختم ہو گیا۔“

”نہیں بابا! میں آپ کے پاس رکوں گی۔“ وہ گھبرا کر بولی۔

”انکل! اگر یہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں تو انہیں رہنے دیں۔“ وہ تو پہلے ہی اسے یہاں چھوڑنے پر تیار تھا۔

”نہیں بیٹا! اب اس کا گھر ہے، یہ گھر والی ہے۔“ یہ بولتے ہوئے ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔

”جاؤ جبہ!“ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا تو وہ مزید انکار نہیں کر سکی۔

”یہاں ویٹ کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔“ وہ اسپتال کے گیٹ کے پاس اسے روک کر کسی کو فون کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آیا۔

”چلو!“ اس نے کہا اور وہ چل پڑی۔ گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے پہلے اس کے لیے گاڑی کا پھینکا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود پینجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔

”السلام علیکم بھابھی! میں فیروز، دراب کا بیسٹ فرینڈ اس لحاظ سے آپ کا دیور بھی ہوا۔ میں نکاح میں بھی شامل تھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ صبح بھی میں ہی آپ کو لے کر آیا تھا۔ دراصل اس گدھے نے اتنی ایمر جنسی میں فون کیا۔ میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ نہیں لاسکا۔ چلیں۔ کوئی

بات نہیں دیکھ کی تقریب میں سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے بھی اب آنا جانا تو لگا رہے گا۔“

”کتنا بولتے ہو تم؟“ دراب نے گھور کر اسے ٹوکا۔

”کہاں چھوڑوں تمہیں؟“

”چھوڑ دو کہیں بھی، میرا کون سا گھر ہے۔“ دراب کے کہنے پر اب کی بار فیروز نے اسے گھوری سے نوازا۔

”بگ بھی چکو۔“ فیروز نے موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا۔

”سیدھے چلتے رہو۔“ وہ بھی جگہ بتانے کے بجائے

راستہ بتانے لگا جبکہ جبہ غائب و غایب سے باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ گاڑی رکی تو اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ وہ کوئی درمیانے سے علاقے کے فلیٹس تھے وہ باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں کہ وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے پتا نہیں کیا رازد نیاز کر رہے تھے۔ ان دونوں کو اپنی طرف آنادیکھ کر وہ ان پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی۔

”اچھا بھابھی! اجازت۔ آپ آرام کریں۔ میں پھر آؤں گا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کرونا۔ میں لیتا آؤں گا۔“

وہ جاتے ہوئے دراب کے گلے لگ کر بولا اس کے جاتے ہی وہ فلیٹس کی طرف بڑھنے لگا لفٹ کا بٹن دبا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سٹیٹا کر لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ تیسرے فلور کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اجنبیت کی دیوار پوری طرح ان کے درمیان حائل تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا چند گھنٹے پہلے وہ اتنے مضبوط بندھن میں بندھے ہیں۔ لفٹ کھلتے ہی وہ ایسے چل پڑا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں۔ وہ اسی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے ایک فلیٹ کے سامنے رکی جس کا لاک وہ کھول رہا تھا۔ وہ بہت کم کسی بات سے ڈرتی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جو کچھ وہ اس سے کہہ چکی تھی۔ اس کے بعد ڈرنا تو بنتا تھا اگرچہ وہ معافی مانگ چکی تھی۔ لیکن وہ اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔

”بیٹھو!“ اس کو پونہی کھڑا دیکھ کر دراب کو اس سے کہنا پڑا تھا۔ اس سے کہہ کر وہ سائیڈ پر بنے دروازے میں غائب ہو گیا تھا۔

اس کے جاتے ہی اس کی نظریں گھر کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ فل فرنشڈ فلیٹ تھا، ہر چیز کی قیمت کا اندازہ اس کی خوب صورتی دیکھ کر ہو رہا تھا، امریکن اسٹائل میں بنا

یقیناً تمہیں بھی پر اہلم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہ دل کا رشتہ تو ہے نہیں کہ دور جانے پر تکلیف ہو، لیکن الگ ہونے کی صورت میں بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہاری حفاظت اور خیال رکھنے کا ذمہ لے چکا ہوں۔“

بات کے اختتام پر اس نے اپنی باتوں کی ایکشن دیکھنا چاہا لیکن جھکے سر کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا تو دونوں کھٹنوں پر دباؤ ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ”تم تھک گئی ہوگی یہ سامنے بیڈ روم ہے، تم جا کر آرام کر لو۔ تمہارا بیگ بھی اندر ہے۔ حمید انکل نے دیا تھا۔“ کہہ کر وہ خود صوفہ کم بیڈ پر لیٹ گیا اور ٹی وی آن کر دیا جس کا مطلب تھا بچ ہو جاؤ۔“

وہ ان ہی نیچی نظروں سے چلتی اس کمرے میں آگئی۔ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے بے ساختہ دروازے کو سراہا تھا لیکن یہ سب صرف چند سیکنڈ کے لیے تھا اگلے ہی بل وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اپنی شادی کے حوالے سے اس نے کتنے خواب دیکھے تھے لیکن ان کی تعبیر اتنی بھیانک ہوگی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کوئی اسے اپنانے کے بعد کبے گا وہ صرف ایک مجبوری ہے۔ گلے پڑا ڈھول جسے وہ بجانے کے لیے مجبور ہے۔ اس کی خوب صورتی، تعلیم اسٹینڈرڈ کچھ بھی تو اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا جو کبھی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا اور آج وہی سب کچھ بن بیٹھا تھا۔ یہ اس کے غور کی سزا تھی یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش۔

”یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پاپا!“ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی باپ سے شکوہ کرنے لگی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ پوں اچھلی جیسے بیڈ میں اسپرنگ نکل آئے ہوں۔ اس نے تھوک نکل کر دروازے کو دیکھا۔ دوسری دفعہ دروازے کی دستک میں شدت تھی وہ تیزی سے منہ صاف کر کے اٹھی۔ دروازے کے باہر وہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اس نے بغور دیکھا اور کچھ کہے بغیر وارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے اس نے ایک بیگ نکالا اور جانے سے پہلے اس کے قریب رکھا۔

”رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور نہ رونے سے میں بدل جاؤں گا۔“ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ یقیناً وہ مسلسل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے احساس دلا

پکن اس کے آگے چھوٹا سا ڈانگ اریبا آگے ٹی وی لاؤنج سامنے دیوار پر اتنا بڑا LED اور دائیں جانب دو دروازے تھے ایک میں وہ گیا تھا پتا نہیں وہ بیڈ روم تھا یا کیا۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد پہلا سوال یہ ابھرا تھا کیا یہ شان دار فلیٹ اس کا اپنا ہے۔ اپنے خیالوں میں اس نے غور ہی نہیں کیا وہ کب سے نہ صرف کمرے میں آچکا ہے بلکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔

”جوس!“ جب نے چونک کر دیکھا۔ وہ جوس لیے کھڑا تھا وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔

”مجھے بھوک نہیں۔“

”جانتا ہوں، لیکن یہ بھوک کے لیے نہیں پاس کے لیے ہے۔“ وہ گلاس سامنے ٹیبل پر رکھ کر خود اس کے سامنے والے کلوچ پر بیٹھ گیا۔

”میں اکیلا ہی رہا ہوں۔ اس لیے کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ فلیٹ فیروز نے ارنج کیا ہے۔“ جب نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے بھول جانا چاہیے کہ زندگی پھولوں کی بیج بننے کی اس کے لیے۔

”میں جلد ہی کسی مناسب جگہ پر جو میرے لیے انورڈ لائن ہو، انتظام کر لوں گا۔ اور ہاں مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔“ جب کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔

”کیا کہنے والا تھا، پچھلی بات کا طعنہ دینے والا تھا یا نئے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ کرنے والا تھا۔ لیکن وہ ذہنی طور پر اس رشتے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس سے نظریں ملا نہیں سکی۔

”میں جانتا ہوں یہ نکاح تم نے مجبوری میں اور اپنے پاپا کی خواہش کی وجہ سے کیا ہے ورنہ مجھ جیسا کیسی ڈرائیور غریب آدمی تمہارا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہو سکتا تھا۔“

جب کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔

”اور جہاں تک میری بات ہے تو میرے لیے بھی یہ رشتہ ایک مجبوری ہے۔ میں بھی انکل کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا سو۔“ اس نے گہرا سانس لیا۔ ”کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں نہ ہمارے راستے ایک ہیں اور نہ منزل۔ تم جب چاہو یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پر اہلم نہیں ہوگی اور جب تم اپنے ہم سفر کے ساتھ شروع کرنا چاہو گے تو

”آپ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور نہ میں آپ سے ڈرتی ہوں۔“

درا ب نے چائے کا کپ نیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ ”یہ تو وقت بتائے گا۔“ وہ کہہ کر چکن کی طرف بڑھ گیا جبکہ جب کے حواس متخل ہونے لگے۔

”اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟“ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی آواز میں وہ رعب نہیں آسکا۔

”اپنے ننھے سے ذہن پر زیادہ زور نہ دو، ناشتا کرو۔ انکل ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔“

کہہ کر وہ اس بیڈ روم میں چلا گیا جہاں رات کو اس کا بھرا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے جلدی جلدی جتنا ہو سکتا تھا۔ اپنے حلق سے نیچے اتارا جب تک وہ واپس آیا، وہ تین تیس ایک آلیٹ اور چائے کا ایک کپ ختم کر چکی تھی۔

”چلیں۔“ اس کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔

”اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ انکل تمہیں یوں دیکھیں گے تو انہیں افسوس ہوگا اور انہیں افسوس میں دیکھ کر تمہارا توپتا نہیں رہے افسوس ضرور ہوگا۔“

وہ ایک ناراض نظر اس کے صاف ستھرے حلیے پر ڈال کر بیڈ روم میں آگئی۔

”یہ آوی جب تک بولتا نہیں تھا تب تک کتنا ٹھیک تھا۔ اب جب بھی منہ کھولتا ہے۔ آگ اگلتا ہے ڈانٹا سورا کہیں کا۔“ وہ بیک کھول کر کوئی مناسب جوڑا تلاش کرنے لگی اور جوڑے دیکھتے ہوئے جیسے پھر سے آنسوؤں کا ریلا آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ کس کے نام پر بنے تھے اور کس کے نام پر پہنے جا رہے تھے۔

”بیس منٹ ہو گئے ہیں جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہیں۔“

وہ باہر سے ہی چیخا تھا تو اس کے ہاتھوں میں تیزی سی آگئی۔ اس نے بلیو کلر کا سوٹ جس کے گلے پر ہلکے سلور کلر کا کام تھا نکالا۔ آئینے میں بال بناتے ہوئے اس نے بغور اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ جب تو کہیں نہیں تھی جس کی چمک باند نہیں پڑتی تھی۔ یہ تو کوئی اداس بے رنگ مایوس جبہ تھی اس نے چہرے سے نظر ہٹا کر جلدی سے بالوں میں برش کیا۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنیں اور لپ اسٹک بھی لگالی۔ پاپا

رہی تھی کہ وہ اس کے لیے ان چاہا ہے۔ ہاتھ روم میں جا کر اس نے اچھی طرح منہ دھویا، کپڑے بدلے اور لیٹ گئی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کب آنکھ لگی پتا ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ زور دار دستک سے کھلی تھی۔ دستک کے ساتھ ہینڈل بھی گھمایا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوپٹہ خود پر لیتی دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر دراب کچھ پریشانی اور کچھ غصے کی حالت میں کھڑا تھا۔

”اتنی دیر لگا دی میں سمجھا، کہیں خود کشی کر کے اللہ کو پیاری نہیں ہو گئیں۔“

اسے دیکھ کر بولتا ہوا وہ دوبارہ مڑ گیا اور جبہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ وہ چپ تھی خلاف عادت تو یہ شخص طنز کرتا ہی جا رہا تھا۔

”اب مجھے کھورنا بند کرو اور تیار ہو جاؤ۔ ہمیں انکل سے ملنے جانا ہے۔“ جبہ نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ منہ دھو کر الٹا سیدھا برش کر کے وہ باہر آگئی۔ وہ ڈانٹنگ نیبل پر کچھ رکھ رہا تھا۔

”ایسے جاؤ گی؟“ دراب نے ناقدانہ انداز میں اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔

”میرا دل نہیں چاہ رہا کپڑے چننے کرنے کو۔“

”بعض دفعہ انسان کو بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑ جاتی ہیں جن پر اس کا دل مان نہیں رہا ہو تا جیسے میں نے کس دل سے تم سے نکاح کیا میں ہی جانتا ہوں۔“ کہنے کے ساتھ اس نے تیس پر جیم لگانا شروع کر دیا اور جبہ کا داغ بالکل الٹ گیا۔

”کل سے دس دفعہ آپ مجھ پر احسان جتا چکے ہیں اگر اتنی تکلیف تھی تو نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی۔“

”ناشتا کر لو۔“ اس کے کہنے پر ایسا جواب۔ اسے رونامی آگیا۔

”نہیں کرنا مجھے۔“

”مرضی ہے تمہاری۔“ وہ کہہ کر مزے سے کھانے میں مصروف ہو گیا جبکہ اس کی آنکھیں قل ہو بالذکر رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی کتنی باز چور نظروں سے چائے کے کپ اور آلیٹ کو دیکھ چکی تھی جس کی مزے دار خوشبو اس کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔

”خود پر جبر کرنا اچھی بات نہیں۔ کھالو میں کچھ نہیں کہتا۔“ وہ زرب لب مسکراتے ہوئے بولا۔

READING
Section

منظور صاحب کب سے اسے دیکھ رہے تھے جو وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی۔
”حب!“

”جی پاپا! وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔
”شام ہونے والی ہے، دراب کو فون کرنا تھا۔ تمہیں لے جائے۔“

”شام ہو گئی۔“ وہ بے خیالی میں گھڑی کو دیکھنے لگی۔
”ادھر آؤ حب! میرے پاس۔“ وہ اٹھ کر ان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔

”کیا بات ہے جب سے آئی ہو، دیکھ رہا ہوں۔ چپ چپ ہو۔“

”نہیں تو پاپا! بس آپ کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پہلے آپ کے پاس تھی تو تسلی تھی۔ اب وہاں بھی مجھے آپ کا خیال رہتا ہے۔“

”اب تو میں پہلے سے بہتر ہوں۔ بات کو ٹالو نہیں۔ مجھے ٹھیک بتاؤ۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ دراب نے کچھ کہا ہے؟“ اس نے سرفنی میں ہلایا۔

”میں جانتا ہوں، دراب کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کر سکتا۔“

”پاپا آپ ایک اجنبی پر اتنا بھروسا کیسے کر سکتے ہیں اتنا کہ اپنی بیٹی ہی اسے دے دی یہ جانتے ہوئے کہ لائف پارٹنر کے لیے میری سوچ کیا تھی۔ آپ نے بہت زیادتی کی میرے ساتھ۔“ اب کی بار وہ اپنے آنسو نہیں روک سکی۔
”حب!“ اس کے آنسو دیکھ کر وہ افسردہ ہوئے۔
”قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تم خود دیکھو۔ حالات کیا ہوئے اور کیسے یہ رشتہ جڑا اگر اس مشکل وقت میں دراب ہماری مدد نہ کرنا تو سوچو۔ حالات کتنے بھیانک ہوتے۔“

”انسان اپنی قسمت خود دیتا ہے پاپا! ٹھیک ہے اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے اس کے نکاح میں ہی دے دیتے۔“

”تم پریشان نہ ہو حب! وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔“
”کیسے پاپا! اس کے پاس کچھ نہیں۔“

”خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی، بس محبت اور سکون ہونا چاہیے۔ سب بن جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔“ اس کو ان سے اتفاق نہیں تھا، بحث کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھولیں تو پہلے تو اسے سامنے

خوش ہوں گے۔ اس نے نم آنکھوں کو کاہل سے سجاتے ہوئے خود کو سمجھایا جب وہ باہر آئی تو وہ مڑ کر کچھ بولنے والا تھا شاید ڈانٹنے والا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو گیا۔
”اچھی لگ رہی ہو۔“ کچھ لمحوں کے بعد بولا۔

”پاپا کے لیے کیا ہے۔“ حب نے جتنا ضروری سمجھا تھا۔
”تو میں نے کب کہا، میرے لیے کیا ہے۔“ اس کی گہری نظر بھی ایک لمحے کے لیے تھی۔ سارا راستہ ان کے درمیان خاموشی رہی تھی جب وہ کار پارک کر کے آیا تو وہ اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔

”یقیناً“ یہ دکھاوا بھی پاپا کے لیے ہو گا۔“ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا، وہ اب کی بار بولی نہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔

”حب!“ بیڈ سے ٹیک لگائے منظور صاحب کی آنکھوں کے ساتھ جیسے چہرہ بھی روشن ہو گیا تھا۔ ”کیسی ہے میری بیٹی؟“ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔

”اچھی ہوں پاپا۔“ وہ جھکی نظروں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ بولی۔

”آپ ٹھیک ہیں؟“ اب کے اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔

”میں تو بہت بہتر ہوں۔ اب تو لگتا ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔“ اور وہ انہیں واقعی پہلے سے بہتر لگے تھے۔

”اور دراب تم وہاں کیوں کھڑے ہو۔“ انہوں نے پیچھے کھڑے دراب کو دیکھ کر کہا۔ تو ان کے بیڈ کے قریب آ گیا۔
”اچھا انکل! اب میں چلتا ہوں۔ کام ہے۔ شام میں چکر لگاتا ہوں۔“ کچھ دیر بعد اس نے اجازت چاہی تھی۔

”ہاں ہاں بیٹا! جاؤ۔ تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہو گا۔ میری وجہ سے پہلے ہی تمہیں بہت مشکل ہوئی ہے۔“

”انکل! بیٹا کہہ کر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔“ وہ مسکرایا تو انہوں نے اشارے سے اسے جھکنے کو کہا۔ اس کے جھکنے پر انہوں نے بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔

”سدا خوش رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے۔“ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا اور ایک نظر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔

”اگر ضرورت ہو تو کال کر لینا۔“ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔



کھڑا وجود الوٹن لگا، لیکن اس کی خود پر جی سرد نظریں اس کے ہونے کا احساس دلا گئی تھیں۔ وہ نظریں چرائی ہوئی سیدھی ہوئی۔ منظور صاحب نے بھی تب ہی اسے دیکھا۔

”دراب آویٹا! کب آئے۔ میں نے دیکھا ہی نہیں۔“

”ابھی تھوڑی دیر پہلے انکل! کیسی طبیعت ہے آپ کی؟“ وہ منظور صاحب سے حسب معمول ملتا تھا لگ نہیں رہا تھا اس نے کچھ سنا ہے، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی اپنی جگہ خود کو چور محسوس کر رہے تھے۔

”اچھا انکل! آپ آرام کریں میں چلتا ہوں۔“ اس کے یوں کہنے پر منظور صاحب نے گھبرا کر جبہ کو دیکھا۔

”جب! جاؤ تم بھی۔“ انہیں لگا وہ جبہ کو چھوڑ جائے گا۔

”انکل! آپ اکیلے ہیں۔“

”نہیں بیٹا! سارا اشاف ہے اور پھر تھوڑی دیر میں جمید اللہ بھی آجائے گا۔ تم جبہ کو لے جاؤ اور روز روز بھی آنے کی ضرورت نہیں، جب تمہیں ٹائم ملے۔ تب جبہ کو لے آنا میں اب بستر ہوں۔“

جبہ نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا باپ ڈر گیا تھا، کتنے مجبور ہو جاتے ہیں باپ بیٹیوں کی قسمتوں کے آگے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں۔ آخر وہ بول ہی پڑا۔

”کافی میٹرلسٹنک ہو تم۔“

”کیا مطلب؟“ جبہ نے باہر کے نظاروں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔

”تمہارے نزدیک اچھی زندگی صرف روپیہ پیسہ ہے۔ اچھا انسان اچھا کردار، اچھی سوچ ان کی کوئی حیثیت نہیں تمہارے نزدیک۔“

جبہ نے دبی دبی سانس خارج کی تو وہ سن چکا تھا۔

”اچھی زندگی گزارنے اور اسے حاصل کرنے کی چاہ کرنے کا ہر انسان کو حق ہے اور میرے نزدیک دولت ہی سب کچھ ہے۔“

”اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں ندیم قریشی سے شادی کرنی چاہیے تھی، اس کے پاس تمہاری مطلوبہ ہر چیز تھی، محبت اور شرافت کے سوا۔“ جبہ کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اس لیے کتنی دیر تک لا جواب ہو کر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

”آپ ایک بد زبان اور بد دماغ انسان ہیں۔“ وہ روہانسی ہو کر بولی تو وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔

”اور میرے خیال میں تم انتہائی بد تمیز، خود پسند لڑکی ہو جس کو میں میں کرنے علاوہ اور کچھ نہیں آتا حالانکہ اب جس سے، جیسے بھی تمہاری شادی ہوئی، تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ تمہاری قسمت ہے۔“

”بہت بری قسمت۔“ وہ زہر خندا انداز میں بولی۔

”چلو یہی سہی۔ سمجھ لو کہ تم بد قسمت ہو۔“ آگے وہ کون سا کم تھا۔

یہ ان کی شادی کے دوسرے دن کی رونا ٹنک گفتگو تھی۔ دونوں نے باقی راستہ ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ لفٹ سے فلیٹ تک کا سفر اس نے بڑے ضبط سے طے کیا تھا، اندر داخل ہوتے ہی وہ بیڈروم میں جا کر بیڈ پر اوندھے منہ گر کر کھل کر روئی تھی۔ یہ ہمیشہ چپ رہنے مسکرانے والا بندہ اتنی کڑوی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ دروازے پر لگا تار دستک ہو رہی تھی۔ اس کے سوا کون ہو سکتا تھا پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔

دراب اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔

”جبہ! اس نے بیڈ کے قریب جا کر اسے آواز دی تو ہچکیاں لیتے وجود میں مزید تیزی آگئی تھی۔ دراب نے گہرا سانس لیا۔“

”اٹھو کھانا کھا لو، دیکھو اب اگر تم نہ اٹھیں تو مجبوراً مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔“ وہ بلی تک نہیں تو دراب نے اس کا بازو تھاما ہی تھا کہ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اس کا چہرہ دیکھ کر دراب نے بے ساختہ ہونٹ بھینچ لیے۔

”میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم نے رو رو کر اپنا یہ حال کر لیا ہے۔“ جبہ نے غصے اور ناراضی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔

”ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا اور آپ نے تو میری اتنی انسلٹ کی ہے مجھے بد دماغ، بد تمیز، دولت کی بھوکی اور پتا نہیں کیا کیا کہا ہے۔“

اس کے شکوے پر دراب نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر آنے سے روکا تھا۔

”اور جو تم نے مجھے اتنا کچھ کہا۔ میرا اسٹینڈرڈ نہیں۔ میں تمہارا آئیڈیل نہیں۔ میں تمہاری بری قسمت ہوں۔ ایسا

کہہ کر تم مجھے پھولوں کے ہار پہنارہی تھیں۔“
اب کی بار وہ بولنے کے بجائے تیزی سے پلکیں جھپکنے لگی۔

”میں جیسا ہوں مجھے پتا سے اور میں مطمئن ہوں۔
مجھے برا یہ لگا کہ تم انکل کو پریشان کر رہی تھیں۔ دیکھا نہیں
وہ کتنے بہتر لگ رہے تھے اور تمہارے رونے سے وہ
پریشان ہو گئے تھے۔“

وہ میرے پایا ہیں میں ان سے نہ کہوں تو کس سے کہوں
اور کون ہے میرا۔“ وہ روتے ہوئے بولی۔

دراب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا ”دیکھو جب یہ بات
میں پہلے بھی تمہیں کلیئر کر چکا ہوں۔ آج آخری بار پھر
تیار ہا ہوں تم پابند نہیں ہو۔ تم جیسا آئیڈیل دولت والا
واٹ ایور جیسا بھی چاہتی ہو جب بھی تمہیں لگے تمہیں
مل گیا ہے۔ تم جاسکتی ہو۔ میں کبھی تمہارے راستے میں
نہیں آؤں گا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ نکاح انکل اور
تمہارے کہنے پر کیا۔ تم جب چاہو اپنا راستہ الگ کر سکتی
ہو۔ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور اگر اس سے پہلے میں اپنی
نئی زندگی شروع کرنا چاہوں تو یقیناً تمہیں بھی کوئی
اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم یہاں اچھے دوستوں کی طرح رہیں
گے بے شک باہر ہمیں لوگوں کے سامنے ہسینڈ وانف
کی طرح ایکٹ کرنا پڑے۔“

جب بہت دھیان سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی اسے
اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے اور بہت اچھا دکھتا
ہے۔ کچھ دیر پہلے والی رائے یکسر ذہن کی سلیٹ سے غائب
ہو گئی تھی۔

”اور اگر تمہیں لگے ہم اچھے دوست ہیں تو مجھ سے
باتیں شیئر کر سکتی ہو۔“ وہ کھڑا ہو گیا۔ جب نے سر اٹھا کر
اسے دیکھا اس کی ہائیٹ بھی زبردست تھی۔

”پلو اب کھانا کھا لو میں نے خود بنایا ہے حالانکہ سوچا
تھا تمہارے آنے سے کم از کم کھانا تو پکا پکا ملے گا۔“

”مجھ سے کھانا نہیں بنتا۔ کوئی میڈر رکھ لیں۔ پایا کے گھر
تو عظمیٰ کھانا بنانے آتی تھی۔“ وہ بے خیالی میں روانی سے
بولی۔

”میری آمدنی اتنی نہیں ہے تو کرا فوڈ نہیں کر سکتا۔“
دراب نے پھر وہی باتیں شروع کر دی تھیں جو اس کا موڈ
خراب کر جاتی تھیں پر آج اسے اتنا برا نہیں لگا تھا۔ دراب
اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔

”میں جا ب کر سکتی ہوں۔ آپ کی ہیپلپ ہو جائے گی۔
ویسے بھی ہماری وجہ سے آپ پر کالی بوجھ بڑھ گیا ہے۔“
”تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو۔“ دراب نے اس کی
آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ کتنی دیر تک اس پر سے نظریں
نہیں ہٹا سکی۔

کھانا کھانے کے بعد وہ سستی سے جا کر کاؤچ پر لیٹ گئی
اور ٹی وی آن کر لیا۔ جبکہ دراب برتن اٹھا کر نہ صرف رکھ
آیا بلکہ دھو بھی آیا۔ جب واپس آیا تو وہ سو رہی تھی ایک
ہاتھ سینے پر رکھے اور دوسرا ہاتھ فرش پر گرا تھا۔ دراب نے
ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔
زیادہ رونے سے چہرے کا رنگ گلابی ہو گیا تھا۔ گورا اور
گلابی رنگ مل کر عجیب بہار دکھا رہے تھے پر وہ سر جھٹک کر
مسکرا دیا۔ اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی اٹھا کر سینے پر رکھ دیا۔
لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا کر وہ بیڈروم میں آ گیا۔
اسے خود شدید نیند آرہی تھی۔ اور کل اسے کام پر بھی
جلدی جانا تھا۔

صبح وہ تیار ہو کر باہر آیا تو وہ بھی اٹھ چکی تھی۔
”سو رہی۔ تم سو گئی تھیں۔ میں نے تمہیں جگایا
نہیں۔“ وہ شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا۔

”نہیں میں یہاں آرام سے تھی۔ آپ کو یہاں پریشانی
ہوتی ہوگی آپ بیڈ پر سو یا کریں۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔“

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے مصروف اور ماہرانہ
انداز میں آلیٹ کے لیے پیاز، مرچیں اور ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔
دوسرے چولہے پر اس نے چائے کا پانی رکھا تھا۔

”لائیں میں بنا دوں۔“ بے انتہا شرمندہ ہوتے ہوئے
جب نے اس کے پیچھے آکر کہا۔

”نہیں اس کی ضرورت نہیں ویسے بھی میں اپنا ہر کام
خود کرنے کا عادی ہوں۔“ آلیٹ کی خوشبو پورے کچن میں
پھیل گئی تھی۔ تو س بھی وہ سینک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ

وہ سب چیزیں ٹرے میں رکھ کر ٹیبل سجاتا۔ وہ جلدی سے
سب چیزیں لے کر ٹیبل پر رکھ آئی۔ دراب نے ایک نظر

اس پر ڈالی اور کندھے اچکا کر فریج سے مکھن نکال کر لایا اور
کری پر بیٹھ گیا۔ اور اس کو دیکھنے لگا جو خاموش کھڑی تھی۔

”کیا ہوا۔ ناشتا نہیں کرنا؟“ وہ اس کی سوالیہ نظروں کے
جواب میں وہ موتا ”بھی نہ نہیں کر سکی کیونکہ اسے سخت

بھوک لگی تھی۔ وہ بڑا جھجک کر کھارہی تھی جبکہ اس کے
برعکس وہ بڑی تیزی سے ناشتا ختم کر رہا تھا۔ تب ہی ٹیبل پر

رکھے اس کے موبائل کی بسپ بیچ اٹھی اس نے اسی مصروف انداز میں اسکرین پر نظر ڈالی اور جلدی سے ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے فون آن کیا۔

”ہاں۔ بس نکل رہا تھا۔ تم بتاؤ پہلے کہاں جانا ہے۔ پولیس اسٹیشن یا کورٹ؟“ اور منہ کی طرف جاتا تو اس اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ جو اب فون لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔

”کورٹ، پولیس اسٹیشن کیا یہ کوئی کریمنل ہے۔“ تو اس نے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ تیزی سے باہر آیا۔

”تم خود چلی جانا۔ میں آج شاید شام کو نہ آسکوں۔ انکل کو فون کروں گا۔“

”آپ کہاں جا رہے ہیں؟“ یہ سوال بڑا بے ساختہ تھا اور اسی بے ساختہ انداز میں وہ مڑا تھا۔

”کیوں خیریت؟“ وہ پورے کا پورا اس کی طرف مڑا کیونکہ تین ہفتوں میں شاید پہلی بار اس نے اس سے متعلق کوئی سوال کیا تھا۔

”آپ پولیس اسٹیشن کا کمرہ رہے تھے نا۔ کیوں جانا ہے؟“ دراب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔

”دراصل میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہوں۔ ایک مڑر کرچکا ہوں تو پولیس اسٹیشن آنا جاتا رہتا ہوں۔“ جبہ کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔

”آپ مذاق کر رہے ہیں۔“

”لو مذاق والی کیا بات ہے یہ نہیں کروں گا تو ضرورتیں کیسے پوری کروں گا۔“ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ جبہ کو اس پر سچ کا گمان ہو رہا تھا۔ دراب کا ارادہ اسے مزید تنگ کرنے کا تھا لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ مزید پانچ منٹوں میں وہ بے ہوش ہو سکتی تھی وہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔

”یہ صرف ایک مذاق تھا“ ندیم قریشی کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس سلسلے میں اکثر پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ میں شریف آدمی ہوں۔ یقین رکھو۔“

”ہوں!“ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتارے۔

”تمہیں مجھ پر بھروسا نہیں ہے نا؟“ دراب سیدھا

کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔

”ایسی بات نہیں۔ میں ڈر گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن بھی آپ کو میری وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔“

”نیورمانڈ۔ چلتا ہوں۔“

”کب آئیں گے؟“ دوسرا سوال بھی بے ساختگی میں ہوا تھا۔

”خیریت ہے نا؟“ وہ اب کرسی تھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔

”وہ میں سوچ رہی تھی رات کو کیا پاؤں۔“

”یہ آج اتنی نوازش کیوں ہو رہی ہے مجھ پر۔ پہلے ناشتا اور اب کھانے کی آفر خیریت؟“ جبہ جس جذبے کے زیر اثر تھی اس سے کلنا چاہتی تھی اسی لیے ناراضی سے بولی۔

”زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے پاپا نے کہا ہے کہ آپ کا خیال رکھوں۔“ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ انداز میں دل کھول کر ہنسنا جبہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔

”لطیفہ سنایا ہے جو اتنے دانت نکل رہے ہیں۔“

”یہ کیا لطیفے سے کم ہے کہ تم کسی کا خیال رکھنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔“

”مطلب کیا ہے آپ کا؟“ اب کے اسے واقعی بہت غصہ آیا تھا۔

”مطلب یہ کہ میں نے تمہیں ہمیشہ دوسروں سے خود کا خیال رکھواتے دیکھا ہے اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ تم انکل کا کہنا بھی مانتی ہو۔“

”آپ پھر میری انسلٹ کر رہے ہیں۔“ اب کے وہ روہانسی ہو کر بولی۔

”یہ بھی غلط کہہ رہی ہو۔ یہ حق بھی تمہیں ہی حاصل ہے۔“

”اونہ!“ اب کے وہ پیر پختی ہوئی بیڈ روم کے ساتھ بنے اسٹڈی روم میں گھس گئی اور وہاں کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔



”اکیلی آئی ہو؟“ منظور صاحب نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پاپا! مجھے اکیلے آتے

ہوئے پھر بھی آپ ہر دفعہ یہ سوال پوچھتے ہیں۔“
منظور صاحب ہنس پڑے ”لگتا ہے میری بیٹی کا موڈ آف ہے۔“ اس نے سر جھٹکا۔

”نہیں پایا! ٹھیک ہے موڈ۔ آپ بتائیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟“

”تم کو دیکھ لیا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔“ وہ مسکرا کر بولے۔
”ڈاکٹر سے میری اور دراب کی بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اب آپ کو گھر لے کر جاسکتے ہیں۔ دراب بھی کہہ رہے تھے۔ کل آپ کو گھر لے جائیں گے۔“ منظور صاحب خاموش ہو گئے تھے۔

”کیا ہوا پایا؟“ وہ ان کا خاموش ہو جانا محسوس کر گئی تھی۔

”بیٹی کے گھر رہنا اچھا لگتا ہے کیا حجب؟ اور دراب کے پہلے بھی ہم بہت احسان ہیں۔“

حجب نے گہرا سانس لیا ”مجبوری ہے پایا! اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہ بھی دراب کے دوست کافلیٹ ہے۔ وہ کوئی اور گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔“
”کتنی مشکل میں پڑ گیا ہے بچہ۔“

”بچے کی زبان بھی بہت لمبی ہے۔“ اس کو باپ کی ہمدردی ذرا نہیں بھاری تھی جب سے وہ دراب سے نارمل بات کرنے لگی تھی تب سے موصوف کچھ زیادہ ہی پھلنے لگے تھے۔ ابھی تو زبان کے تیر چلا تا تھا۔ آنکھوں سے معائنہ کرتا رہتا تھا۔ اتنا سافلیٹ تھا کب تک اور کہاں تک چھپ سکتی تھی اسے تو ڈر تھا کسی دن اس کے اندر کا مرد شوہر کے روپ میں آکر کھڑا نہ ہو جائے۔

”السلام علیکم!“ حمد اللہ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور ان کے ساتھ ناویہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔

حجب نے رشک سے ناویہ کا چمکتا چہرہ دیکھا ”کیسی ہو؟“
”تمہارے سامنے ہوں۔“ ناویہ مسکرا کر بولی ”ابو کی طرف آئی ہوئی تھی۔ ابو آ رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی انکل سے مل لوں۔ اس بہانے تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔“

”چلو ابو کو انکل سے باتیں کرنے دو۔ ہم دونوں دوستیں اپنی باتیں کرتی ہیں۔“ وہ دونوں کیفے ٹیرا میں آ گئیں۔

”زندگی بہت بدل گئی ہے نا؟“ ناویہ نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا جو در درختوں پر نظریں جما کر بیٹھی تھی۔

”ہاں!“ وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ ”اتنی بدل گئی ہے کہ عجیب سے عجیب تر ہو گئی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے کمپروماز کروں گی۔ تمہیں پتا ہے نا ناویہ! میں کیا سوچتی تھی۔ کیا سوچ بھی میری لائف پارٹنر کے لیے۔“

”اور تم جانتی ہو نا حجب! میں کیا کہتی تھی کہ انسان کی سوچ ایک جگہ اور اللہ کا فیصلہ ایک جگہ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں؟“

ناویہ کے پوچھنے پر اس نے سر نہی میں ہلایا ”ایسی بات نہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے لیکن میں اپنی سوچ کا کیا کروں۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جب میں یہ سوچتی ہوں تو رونا آتا ہے نہ اس کا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی امید کیا فیوج ہو گا میرا۔“ حجب کو اس کی روہانسی شکل دیکھ کر ترس آیا۔
”حجب! دنیا میں کچھ ناممکن نہیں اگر آج کچھ نہیں تو کل وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔“

”تم کیسی پاکلوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ آج کل لاکھوں کمانے والوں کے گھر نہیں بن پاتے یہ تو پھر چند ہزار کمانے والا ہے پھر سارا دن خوار ہونے کے بعد۔“
”تم اگر اسے ناپسند کرتی تھیں تو منع کر دیتیں۔“

حجب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ”کیا اس وقت منع کرنے والے حالات تھے۔ پایا کی ایک ہی رٹ تھی۔ اس سے شادی کرو۔ پتا نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ آخری کوشش کے طور پر تابش کو بلانے کی کوشش کی۔ اس کی ہر کڑوی کینسلٹی بات برداشت کی جو میرے مزاج کا حصہ بھی نہیں لیکن وہ شخص جو مجھے بچپن سے جانتا تھا۔ اس نے میرے کردار پر شک کیا۔ یہاں آکر میں ہار گئی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن کردار پر الزام نہیں۔ میں کیسے اور کب تک اسے یقین دلاتی رہتی میں پاک ہوں۔“

”تو دراب مان گیا تھا؟“ ناویہ کے سوال پر اس نے بے ساختہ انداز میں اپنے ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو رگڑا۔
”تم یقین نہیں کرو گی ناویہ! ایک سوال ایک شکی نظر کچھ بھی نہیں کہا یہاں تک کہ میری عزت اور جان بچانے والا وہ تھا۔ لیکن پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکاری تھا۔“

”کیوں؟“ ناویہ حیران ہوئی۔
”کیونکہ میں نے اس کی بہت انسلٹ کی تھی۔ اس کی

غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔ ظاہر ہے نادیا وہ بھی انسان ہے کوئی بھی انسان اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا لیکن صرف پیپا کے کہنے پر وہ مان گیا۔

”ایک بات کہوں حسب! ٹھنڈے دماغ سے سنو اور پھر سوچو۔ دراب نے ایک اجنبی ہو کر وہ کیا جو کوئی اپنا نہیں کرنا۔ اس نے ہر مصیبت وقت میں تمہارا اور انکل کا ساتھ دیا۔ ابو بھی اس کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں اور تم غور سے دیکھنا۔ وہ ہنڈسم بھی بہت ہے۔ تابش سے بہت زیادہ اور اس کی گفتگو دیکھ لو کہیں سے لگتا ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہونا اور میری مثال لے لو۔ میں کتنی تھی میں خوش نہیں رہوں گی لیکن دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ قاسم کے سوا مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ دو اجنبیوں کو اتنے قریب لے آتے ہیں کہ اس سے مضبوط رشتہ اور کوئی نہیں رہتا۔ محبت ہو تو دولت اسٹینڈرڈ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اتفاق محبت ہونی چاہیے باقی چیزیں قسمت میں ہوں تو خود بخود مل جاتی ہیں۔“ وہ کچھ نہیں بولی خاموشی سے کپ کی سطح پر انگلی پھیرتی رہی۔

”کیا دراب نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا؟“ جب نے چونک کر اسے دیکھا ”میرا مطلب ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔“

نادیا نے بات ادھوری چھوڑ دی لیکن جب سمجھ گئی اور کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود اس کا چہرہ ایک لخت دہکنے لگا تھا۔ نادیا بے ساختہ مسکرائی۔

”اگر انکل نے یوں ہی کرنا ہوتا تو ندیم قہشتی بھی تھا۔“ پر نادیا کبھی کبھی وہ بڑا مشکوک لگتا ہے یوں کوئی بغیر وجہ تو نہیں کرتا اتنا کچھ حالانکہ میں اسے بتا چکی ہوں میں اسے پسند نہیں کرتی اور وہ بھی مجھے کہہ چکا ہے میں اسے پسند نہیں۔ ایک کمپروما تڑ ہے جو ہم پیپا کے لیے نبھارے ہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اجنبی ہیں۔ ہم نارمل بات چیت کر لیتے ہیں۔“

نادیا نے جیسے افسوس سے سر تھام لیا۔ ”ایسے کسے زندگی گزرے گی حسب! شادی ایک بار ہوتی ہے جب ہو ہی گئی ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرو تم مقابلہ لگا کر کیوں بیٹھ گئی ہو۔ اس کے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہی ہو؟“

”تابش آیا تھا میرے پاس۔“ نادیا نے دھیرے سے کہا۔

”کیوں؟“ اس نے چونک کر پوچھا۔

”وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔“

”لیکن میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب جو

بھی ہے جیسا بھی ہے بس وہ میری زندگی کا حصہ نہیں۔“ اس کے انداز پر نادیا خاموش ہو گئی اور اسے بتایا ہی نہیں کہ وہ تابش کو اس کے گھر کا ایڈریس دے چکی ہے۔ حسب پیپا کے پاس آئی تھی۔

”او کے پیپا! چلتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا۔ میں صبح جلدی آ جاؤں گی۔“

”اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے“ اس کا منہ چومنے کے بعد کتنی دیر اسے سینے سے لگائے رکھا۔

”ہم آپ کو گھر لے جائیں گے۔“ وہ ان سے الگ ہو کر گیلی آنکھوں کے ساتھ بولی۔

”ہاں اب گھر کو دل کرتا ہے۔ دراب نہیں آئے گا تمہیں لینے۔“

”پاپا! آج انہیں ضروری کام سے جانا تھا۔“ وہ یہ بات بچھپا گئی کہ آج اسے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ وہ بھی ہماری وجہ سے ورنہ اسے احسان مندی پر ایک اور طویل لیکچر ملتا۔

”جب! وہ مڑنے لگی جب انہوں نے اسے دوبارہ پکارا۔“

”جی پاپا! وہ دوبارہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔“

”تم خوش ہونا؟“ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔

”جی! وہ سر جھکا کر ایک لفظ بولی۔“

”مجھ سے ناراض تو نہیں کہ میں نے تمہیں مجبور کیا اس شادی کے لیے۔ میں جانتا ہوں۔ یہ سب قبول کرنا تمہارے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن میری مجبوری تھی کہ

میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بعد تم اکیلی رہ جاؤ میرے بعد جب اکیلی رہ جاتیں تو تمہیں ندیم قہشتی جیسے کئی درندے ملتے تم نہیں لڑ سکتی تھیں اور تابش اگر ذرا بھی بڑے طرف

کا مظاہرہ کرتا تو میں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ نہ کرتا۔ جو بات میں نے دراب سے کی تھی وہی بات میں نے

تابش سے بھی کی تھی لیکن میرا مان دراب نے رکھا اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کر سکتا تھا نا وہ تو تمہیں

جاننا تھا نہ تمہارے ماضی کو۔ جبکہ تابش تو تمہیں بچپن سے جانتا تھا۔“

”میں سمجھتی ہوں پاپا۔“

”تو پھر تم خوش کیوں نہیں لگتیں۔ تمہارے اور دراب کے چہرے پر مجھے وہ رونق کیوں نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے میں دن رات اب تمہارے ساتھ ساتھ خود کو دراب کا بھتی مجرم محسوس کرتا ہوں۔ وہ میرا محسن تھا اور میں نے اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھالیا۔ اس سے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیا پتا اس کی کہیں کمٹمنٹ ہو۔ وہ کسی کو پسند کرتا ہو۔“

”بیبا آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ دراب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔“ اور یہ دو باتیں اس نے واقعی دل سے کہیں تھیں۔

”اور کیا دراب تم سے خوش ہے۔“ جب کچھ لکھوں کے لیے بول ہی نہیں سکی۔

”یہ بات میں اس کے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ نہیں تو میرے دل پر بوجھ رہے گا۔“ وہ سر جھکائے ان کے کمزور ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔

”اچھا اب تم جاؤ اور دراب سے کہنا مجھ سے ملے۔“

”جی! وہ افسردہ دل سے وہاں سے اٹھی تھی۔“

بیبا کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ بمشکل ان کی طبیعت سنبھلی تھی اگر دراب نے ان سے کچھ کہہ دیا تو؟ یہی سوچ کر وہ سارا راستہ پریشان رہی۔ فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس تھی اس نے چابی گھما کر دروازہ کھولا تو اسے جھٹکا لگا۔ سب لائٹس آن تھیں لیکن چال رہا تھا ”او میرے خدا!“ وہ پریشان ہو کر آگے بڑھی اور اسٹینڈ میں سے سب سے بڑا چاقو اٹھا کر باہر نکلی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہاتھ پاؤں بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے صاف پتا چل رہا تھا کہ گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ وہ دبے قدموں سے بیڈروم کی طرف بڑھی۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے تھے۔

”او میرے اللہ!“ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

”چور آیا تھا۔“ پہلا خیال ہی اس کے ذہن میں آیا۔

ہاتھ روم کے دروازے کے قریب ہل چل خسوں ہوئی تھی وہ ایک دم دیوار سے جا لگی اور چاقو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ ہاتھ روم کا دروازہ کھلا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا لیکن دوسری طرف شاید کوئی اس سے بھی زیادہ الرٹ تھا۔ اس نے نہ صرف اس کا چاقو والا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا بلکہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔

”کچھ اتنی اچانک اور تیزی سے ہوا کہ وہ کوئی مزاحمت

کے بغیر ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلی بار اس نے اسے اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا وہ شاید شاور لے کر نکلا تھا کندھوں پر تولیہ لٹکا تھا۔

”اچھا تو میرے قتل کے لیے یہ طریقہ سوچا گیا ہے۔“ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر اس نے اس کا چاقو والا ہاتھ مزید اونچا کیا۔ وہ کبھی کبھی کسی پتھویشن میں اتنی نزدں نہیں ہوتی جتنی اب ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کی انتہائی قربت دوسرا قتل کا الزام وہ بولنے کی کوشش میں ہٹلا کر رہ گئی۔

”نہیں میں تو یہ۔“

”کیا میں تو۔“ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مزید اس کے چہرے کی طرف جھکا۔

”پلیز آپ مجھے چھوڑیں۔“ پتا نہیں اس کی قربت نے اسے اتنا نزدں کیوں کر دیا تھا کہ وہ بات نہیں کہہ رہی تھی۔

”نہیں۔ پہلے جواب دو۔ کیا پتا میں تمہیں چھوڑوں اور تم چاقو سیدھا میرے پیٹ میں گھسا دو۔“ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکیلنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ شرٹ کے بغیر تھا اسے کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ دراب کی مسکراہٹ سکڑ گئی اور ہونٹ بھینچ گئے تھے اس نے اس کی کمر کے گرد سے بازو ہٹانے کے ساتھ اس کا بازو بھی چھوڑ دیا تھا۔

”سوری۔ میں مذاق کر رہا تھا۔“ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا بیڈروم میں چلا گیا اور اس کے یوں چھوڑ کر جانے پر نا جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ چند منٹوں بعد جب وہ واپس آیا تو ٹی شرٹ کے ساتھ بال بھی سیٹ ہو چکے تھے وہ ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کچن کی طرف مڑ گیا۔

جب نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے چلتی ڈاننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔

”میں جب گھر آئی تو سب لائٹس آن تھیں جبکہ میں بند کر کے گئی تھی اور آپ بھی اتنی جلدی نہیں آتے۔ میں سمجھی گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔“

”تو تمہیں لگا تم چاقو سے اسے ڈرا لوگی۔“ وہ شرارتی انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف مڑا اور چائے کا گلاس اس کی طرف بڑھایا ”تم روٹی کیوں تھیں۔“ وہ کپ تھامے پوچھ رہا تھا اور اس کا جواب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔

”بولو۔“ اس نے اب بھی کپ کا سرا نہیں چھوڑا تھا۔

”بولو۔“ اس نے اب بھی کپ کا سرا نہیں چھوڑا تھا۔

”میں ڈرتی تھی۔“ جب کی نظریں بے ساختہ اٹھی تھیں اور اس کا یوں دیکھنا اس کے سوال کا جواب دے گیا تھا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کپ چھوڑ دیا اور کاؤچ پر بیٹھ کر دی آن کر لیا اور وہ کتنی دیر یونہی کھڑی رہی۔

”آجاد حب! ڈرنا تو مجھے تم سے چاہیے اور ڈر تم رہی ہو۔“ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو اتنی دیر میں وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ مک لے کر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔

”پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔“ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔

”میں انکل سے مل کر ہی آیا ہوں۔“ وہ بھی ٹی دی پر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ فون رنگ پر اس نے موبائل اٹھایا اور اٹھ کر بیڈروم میں چلا گیا کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو کہیں باہر جانے کے لیے تیار تھا۔

”گھر میں کھانا پکا ہے پھر بھی اگر کچھ اور منگوانا ہے تو بتا دو۔“ وہ کھڑی کی چین بند کرتے ہوئے بولا۔

”ہوں!“ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جانے کیوں اس کے چہرے مسکراہٹ دوڑ گئی ”مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی“ فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں باہر گارڈز ہیں۔ کوئی یونہی اندر نہیں آسکتا۔ تم کھانا کھا کر سو جانا میں لیٹ آؤں گا۔“

”کتالیٹ۔؟“ وہ دروازہ کھولتے ہوئے رکا۔

”تم کہو تو نہیں جاتا۔“ بات ایسی تو نہیں تھی پر ایک سنسنی سی اس کے سارے وجود میں دوڑ گئی۔

”آپ جا میں۔“

”مجھے پتا تھا۔ تم مجھے نہیں روکو گی۔“ دراب کی مسکراہٹ گہری تھی۔

”او کے اللہ حافظ!“ وہ دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ وہ کتنی دیر تک بے مقصد ٹی وی دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھیں نیند سے بو جھل ہونے لگیں۔ رات کا ایک بج رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا فون کر کے پوچھ لے لیکن پھر خود ہی اس خیال کو جھٹک دیا اور کٹن صوفے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ اتنی رات کو وہ کہاں اور کس کے ساتھ ہو گا یہ آخری خیال تھا اس کے بعد اس کی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ آنکھ تب کھلی جب دراب اس کو آواز دینے کے

ساتھ کندھے سے بھی ہلا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔

”تم منہ ہاتھ دھولو، ہمیں جانا ہے۔“ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔

”کہاں جانا ہے؟“ وہ اب بھی نیند میں تھی۔

”بتانا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔“ وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں الٹا سیدھا برش کر کے باہر آگئی۔ دراب نے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ٹوکنا چاہا۔ لیکن پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اور وہ بھی تقریباً ”بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ نیچے اس کا دست فیروز گاڑی میں ان کا منتظر تھا وہ منہ بند کیے مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو بے حد سنجیدہ تھے۔

”آپ مجھے کچھ بتائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں۔“

”ہم اسپتال جا رہے ہیں۔“ آخر دراب کو کہنا پڑا اور وہ جو پہلے ہی کچھ عجیب سے احساس سے دوچار تھی اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔

دراب نے مڑ کر اسے دیکھا ”پریشانی والی بات نہیں انکل کی طبیعت کچھ خراب ہے تو اسپتال سے فون آیا ہے۔“ اب کے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اسپتال آنے پر وہ یونہی گم صم گاڑی سے اتری تھی۔

حمید اللہ انکل وہاں پہلے سے موجود تھے۔ دراب اور فیروز تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔

”ان کو اچانک انٹرنل بلڈنگ شروع ہو گئی ہے اور بہت کوشش سے بھی بند نہیں ہو رہی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن امید کم ہے۔“ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا تھا۔ دراب اور حمید اللہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا وہ سب سن چکی ہے وہ اس وقت اسے جھوٹی تسلی دینے کی ہمت نہیں کیا رہا تھا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔

صبح سے دوپہر ہو چکی تھی وہ یونہی گم صم بیچ پر بیٹھی تھی۔

”حب! تھوڑا سا جوس پی لو۔“ دراب اس کے پاس آیا تھا۔

”میرا دل نہیں چاہ رہا۔“

”دل یہاں کسی کا دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن حلنے اور کام کرنے کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے۔ انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم شاباش ہمت کرو۔“

اس نے کہہ کر جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا
تین گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا تھا۔ اس نے
ڑے رکھ کر پیچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب
نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔
”آپ نے کچھ کھایا؟“

”ہوں۔“ اس نے بونہی آنکھیں بند کیے جواب دیا
لیکن اس کے چہرے کی تھکن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس
نے بھی کچھ نہیں کھایا۔

”آپ پیاسے ملے تھے۔ انہوں نے آپ سے کچھ کہا
تھا؟“ دراب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔

”وہ بہت خوش تھے میں نے ان سے کہا تھا میں انہیں
کل گھر لے چلوں گا اور بس یہی کہا تمہارا بہت خیال
رکھوں۔“

”تو آپ نے کیا کہا؟“ وہ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔
دراب نے گہرا سانس لیا۔

”یہی کہ میں نے جبہ کی ذمہ داری لی ہے تو اسے ضرور
نبھاؤں گا۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔“ جبہ
خاموش ہو گئی۔

وہ دونوں ہی کتنی دیر تک خاموش بیٹھے رہے پھر دوبارہ
جبہ ہی بولی تھی ”پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا۔“

دراب نے اس چہرے سے نظریں ہٹالیں ”ڈاکٹر کوشش
کر رہے ہیں۔“

”اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو۔“ اس کے ہونٹ کانپ
رہے تھے۔ دراب نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔

اس نے ڈاکٹر نرس کو بھاگتے دیکھا وہ دونوں گھبرا کر
ICU کی طرف بڑھے۔ منظور صاحب کی ساری چادر خون
سے بھری تھی ”راستہ دیں۔“ نرس کے ساتھ تین ڈاکٹرز
اور اندر داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی سب کی
نظریں ڈاکٹر پر ٹھہر گئیں ”آئے ایم سوری۔“ ڈاکٹر کے تین
لفظ ان کو بتانے کے لیے کافی تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔

دراب کی نظریں جبہ کی طرف اٹھی تھیں جسے سکتہ
ہو گیا تھا۔ سب رو رہے تھے سوائے اس کے سب سے
پہلے نادیا نے اسے گلے لگایا اور ساتھ لکتے ہی وہ اس کے
بازوں میں جھول گئی۔

وہ حمید انکل کے گھر تھی۔ بس وہ اور خالہ کی فیملی رہ گئی

تھی۔ دراب نے صبح سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور پتا نہیں
کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ اس کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔
”دراب بھائی!“

”ہوں۔“ نادیا کے پکارنے پر اس نے اپنی جلتی ہوئی
آنکھوں کو کھولا۔

”آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں۔“
”نہیں۔“

”آپ تھوڑا آرام کر لیتے۔ کل رات سے جاگ رہے
ہیں۔“ نادیا کو اس کی لال آنکھیں مر جھایا ہوا چہرہ دیکھ کر
ترس آیا تھا۔

”ہوں، جبہ ٹھیک ہے؟“

”نہیں، کچھ کھاتی ہے اور نہ روتی ہے۔ آپ مل لیں
ایک پار اس کو۔ بولی تو نہیں پر مجھے لگتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ
رہی تھی۔“

دراب نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے میں
آیا تو اس کے ارد گرد اس کی خالہ اس کی کزن اور نادیا کی
بہنیں تھیں اور دوسرے کونے میں تابش اور حمید اللہ انکل
کھڑے تھے سب آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ
ایک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر داخل
ہونے پر سب سے پہلے حمید اللہ انکل نے دیکھا تھا۔

”او دراب۔“ چھت کی طرف دیکھتی اس کی نظریں
بے ساختہ دروازے کی طرف گئی تھیں وہ بس اس کی
طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ پہلے اس کی
آنکھیں نم ہوئیں اور پھر ان سے آنسو قطرہ قطرہ گرنے
لگے۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ دراب کی طرف بڑھایا۔ وہ
تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب
بیٹھ گیا اور بہت آہستگی سے اس کے گالوں پر گرتے آنسو
صاف کیے بس اتنا احساس اور وہ اس کے سینے سے لگ کر
بلک اٹھی تھی۔ غیروں کی بھیڑ میں بس وہی ایک اپنا لگتا تھا۔
وہ کیوں بھول گئی وہ اکیلی بے سہارا نہیں پایا اس کو مضبوط
ہاتھوں میں سونپ کر گئے ہیں۔ تابش نے ایک ناگوار نظر
دونوں پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔



دو ماہ گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو،
کتنی حیرت کی بات ہے نا اس سے پہلے کبھی اس نے دراب
کی پروا نہیں کی تھی۔ دھیان تو اب بھی نہیں رکھتی تھی



مجھے دل کم نہیں کیا۔“ حسبہ تو اس کے حساب کتاب پر حیرت کے مارے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔
 ”میں آتی ہوں۔“ وہ تیزی سے پٹی تھی۔ الماری کھول کر اس نے اپنی طرف سے بہترین سوٹ کا انتخاب کیا تھا شیشے کے آگے لپ اسٹک لگاتے ہوئے اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اس نے بالوں کو برش کیا ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی اور باہر آگئی وہ اسی کے انتظار میں تھا۔

”گڈا“ اتنی تیاری کے بعد صرف یہ لفظ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوئی اور ایسے تاثرات اس کے چہرے پر بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دراب کو جھک کر چابی اٹھانی پڑی تھی۔

”چلو۔“ اس کو رکا دیکھ کر وہ بولا تو وہ منہ بناتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ لفٹ کھلنے کے انتظار میں کھڑے تھے جب سامنے فلٹ کا دروازہ کھلا تھا۔
 ”ارے لیڈ کلرا“ وہ دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔
 ”سلمیٰ آئی کیسی ہیں آپ؟“
 ”میں تو ٹھیک ہوں۔“

”انکل کیسے ہیں؟“ وہ ابے انکل کی باتیں سنانے لگیں۔ کافی باتوں کی خاتون کتنی تھیں تب ہی انہوں نے حسبہ کی موجودگی کو محسوس کیا تو ان کی زبان کو بریک لگے۔
 ”یہ پریٹی گرل کون ہے کوئی گرل فرینڈ؟“ ان کے کہنے پر دراب نے دل کھول کر فتنہ لگایا جبکہ حسبہ نے کھا جانے والی نظروں سے دراب کو دیکھا۔

”ارے نہیں آئی اب مسز ہے میری۔“
 ”اوہ۔“ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ ”بڑی پیاری ہے۔“ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے پار کیا۔
 ”بہت سی لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے۔“

”آج فیروز سے کہا اپنی گاڑی مجھے دے دو، ہمیں کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے باہر جانا ہے۔“ وہ خاموش رہی تھی۔
 گاڑی ایک بڑے ریسٹورنٹ کے آگے رکی تھی۔
 ”اندر چلیں یا باہر ہی بیٹھیں۔ ویسے تو باہر کا موسم بھی کافی اچھا ہے۔“ دراب نے اوپن ایر میں بیٹھے لوگوں پر نظر ڈال کر کہا تو حسبہ نے سرسری سی نظر سامنے ڈالی جہاں ایک ٹیبل پر چند لڑکیاں بیٹھی دراب کو دیکھ رہی تھیں اور ان کی نظریں حسبہ کے ہونٹ بھینچ گئے۔ تب ہی اس کی نظر تابش پر پڑی جو وہاں ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور اس

وہ ہی اس کی پروا کرتا تھا، لیکن اب اسے اس کا انتظار رہتا تھا۔ ان کے درمیان جو نوک جھونک رہتی تھی۔ وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ عجیب سی خاموشی تھی ایسی خاموشی جو ہولادیتی تھی ہر بل یہ خوف کہ ابھی وہ اس سے کہے گا کہ وہ جو کمنٹ تھی۔ وہ تو ختم ہوئی اب تم آزاد ہو تو کیا وہ آزادی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اس لیے اس کا سامنا نہیں کرتی تھی تو وہ کیوں اس سے کترا رہا تھا۔ کیا وہ اس سے کہنے میں ہچکچا رہا تھا۔ ہاں اس میں مروت بھی تو بہت تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر سوچا۔

”السلام علیکم“ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی ہی نہیں۔
 ”کیا ہو رہا تھا؟“

”کچھ نہیں۔“ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔“ اس کے کہنے پر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں ریننگ لگی تھی۔ دراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔
 ”ریننگ پسند ہے تمہیں؟“ حسبہ نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا اور دو گینڈے کی جسامت والے آدمیوں کو آپس میں گتھم گتھا دیکھ کر وہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔

”میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی۔“ اس نے چینل بدل دیا۔ اگلا اس سے بھی زیادہ شرمندہ کر دینے والا تھا۔ انگریزی سوڈی کاروائی سیکس چل رہا تھا۔
 ”اچھا تو یہ دیکھ رہی تھیں۔“ دراب کو اس کی شکل دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ حسبہ نے ٹی وی ہی بند کر دیا۔
 ”چائے بناؤں؟“ اپنی جھینپ مٹانے کے لیے وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔

”نہیں۔ ہم باہر چل رہے ہیں۔ آج کھانا باہر کھائیں گے اور شاپنگ بھی۔“
 ”میں نے کھانا بنایا ہے۔“
 ”لیکن میرا موڈ ہے آج باہر کھانے کا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔“

”میں تیار ہی ہوں۔“ اس نے ہاتھوں سے کپڑوں کی سلوٹیں دور کرنے کی کوشش کی۔
 ”تمہارے پاس اور کوئی کپڑے نہیں۔ ٹوٹل چار سوٹ ہیں جن کے رنگ اور ڈیزائن تک مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ ہمیں ساتھ رہتے تین ماہ ہیں کھٹے اور اٹھارہ سیکنڈ ہو چکے ہیں پرتھم نے کبھی کوئی اچھا سوٹ پہن کر میک اپ کرتے

کی نظریں بھی ان پر تھیں یعنی اس نے ان کو دیکھ لیا تھا۔
 ”اندر چلتے ہیں۔“ جب نے جیسے دراب کی مشکل آسان
 کر دی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہی دراب نے سکون کا سانس
 لیا۔

”دیکھو ہم نے کیا کھانا ہے۔“ وہ کارڈ پر نظریں دوڑاتا
 ہوا بولا جبکہ وہ بڑے غور سے اس لیڈی کٹر کو دیکھ رہی تھی،
 وہ واقعی اتنا ہنڈ سم تھا کہ لڑکیاں اسے مڑ کر دیکھیں، لیکن
 اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ دراب نے نظر اٹھا کر اسے
 دیکھا اور پھر چونک گیا۔

”کیا ہوا؟“ زیادہ بھوک لگی ہے۔“ وہ مسکرا کر بولا اور پھر
 قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔

”مجھے ایسے دیکھ رہی ہو جیسے کچا چبا جاؤ گی۔ کیا ہے جب!
 اتنی ناراضی سے کیوں دیکھ رہی ہو۔“ آخر اسے اپنی
 مسکراہٹ کو سمیٹ کر پوچھنا پڑا۔

”آپ مجھے صاف بتائیں“ آپ کی کتنی گرل فرینڈز
 تھیں۔“

”توبہ!“ اس نے مینو کارڈ ٹیبل پر رکھا۔ ”تم مذاق کو بھی
 اتنا سیریس لے لیتی ہو۔“
 ”پھر ان آنٹی نے کیوں کہا؟“

”وہ مجھے چڑا رہی تھیں جب بس اور یارا میری گرل فرینڈ
 کیسے ہو سکتی ہے میں شہرا غریب بندہ ہنڈ سم اچھی ہونے
 سے کیا ہوتا ہے آج کل لڑکیاں امیر آدمیوں کو پسند کرتی
 ہیں جو انہیں عیش کرا سکیں۔ اپنی مثال لے لو، تمہیں بھی
 تو امیر لڑکا چاہیے تھا چاہے وہ تمہارے ساتھ نہ مخلص ہوتا
 نہ میری طرح تمہارا خیال رکھتا۔ تمہیں بھی تو میری قدر
 نہیں نا۔ کیوں کہ میرے پاس دولت نہیں، اعلا ڈگری
 نہیں۔ معمولی ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میں تو یہاں آنا فورڈ
 بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری خوشی کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں
 پسند ہے نا اور اگر تمہاری شادی تابش سے ہوئی ہوتی تو وہ
 تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا تھا۔“

جب اس کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں
 جھپک کر بہت کوشش کی، آنسو باہر نہ آئیں، لیکن وہ ضبط
 نہ کر سکی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اسی نے یہ سب دراب سے
 کہا تھا اور اب جب وہ یہ سب باتیں اسے لوٹا رہا تھا تو اس
 کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ ایک دم کبری
 رکھ لیں کراٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ارد گرد لوگ اسے
 دیکھ رہے ہیں وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس

کا چہرہ بھگور دیا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ اندر آتے تابش سے
 بری طرح ٹکرائی تھی اور وہ اسے یوں دیکھ کر بے حد حیران
 ہوا تھا۔ جب نے اسے دیکھا ریوں جیسے پہچانتی نہ ہو اور
 تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ دراب کو بالکل بھی
 اس کے اتنے شدید ری ایکشن کا اندازہ نہیں تھا وہ بھی اس
 کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کو بھانگتے دیکھ کر جب کے پیچھے جاتا
 تابش بے اختیار رکا تھا۔

”جب!“ اس نے ایک دم اس کا بازو تھام کر اس کا رخ
 اپنی طرف کیا تھا۔

”جب! یہ کیا حرکت ہے؟“

”چھوڑیں مجھے۔ بہت بری ہوں میں پتا ہے مجھے۔ آپ
 مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ صاف کیوں نہیں کہتے ایسے گھما
 پھرا کر طنز کیوں کرتے ہیں اتنی انسٹلٹ کرنے کا آپ کو کوئی
 حق نہیں۔“

”چلو۔“ وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی نکالے آیا۔ تابش
 نے ان دونوں کو دور سے بحث کرتے دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا
 جب کے رونے کی وجہ، لیکن اس کو ابھی اپنی ہونے والی
 سنگتیر کے پاس جانا تھا جو اس کے انتظار میں تھی اسے دیکھ
 رہی تھی۔

گاڑی میں صرف اس کے رونے کی آواز آرہی تھی جو
 دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ دراب
 کچھ دیر تو اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن
 جب کافی دیر تک وہ چپ نہیں ہوئی تو اسے بولنا پڑا۔

”جب پلیز، چپ کر جاؤ۔“ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بے بسی
 سے بولا پھر اس نے گاڑی ایک طرف روک دی۔
 ”اوکے۔ آئی ایم سوری۔ میری غلطی ہے، میں مذاق
 کر رہا تھا۔“

”یہ مذاق تھا۔“ وہ یونہی منہ پر ہاتھ رکھے بھاری آواز
 میں بولی۔

”انسٹلٹ کی ہے آپ نے میری۔“

”میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری انسٹلٹ کروں۔
 میں کیوں تمہیں چھوڑنا چاہوں گا میں تو۔“

”پھر آپ نے وہ سب کیوں کہا؟“ وہ منہ بسور کر بولی۔

”کیونکہ میں تمہیں وہ سب تو نہیں دے سکتا نا جو
 تمہاری خواہش تھی اور پھر تم ڈیزرو بھی کرتی ہو۔“ وہ
 افسردہ ہو کر بولا۔

”میں نے کبھی آپ سے شکایت کی، میں نے جو کہا پہلے

”کہا کیونکہ پہلے مجھے پتا نہیں تھا۔ حقیقت کیسی ہوتی ہے۔“
 ”لیکن پھر بھی جب! اگر تم چاہو تو تمہیں سب مل سکتا ہے۔“
 ”لیکن۔۔۔“ اس نے فقرو اور اچھوڑ دیا۔

”لیکن کیا؟“ جب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔
 ”لیکن تمہیں مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔“

”مجھے کچھ نہیں چاہیے۔“ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر بولی دراب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔

”محبت تو نہیں کرنے لگی ہو مجھ سے؟“ دراب کی آواز گاڑی کی خاموشی میں گونجی تو اسے لگا دل کے چاروں کونوں میں اس کی بازگشت سنائی دی ہے اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا اس نے جواب دیے بغیر سی ڈی پلیئر آن کر دیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ دراب نے اس پر ایک نظر ڈالی اور مسکرا دیا عجیب سے انداز میں۔



صبح وہ خاموشی سے نکل گیا تھا اب رات ہو رہی تھی چل چل کر اس کی ٹانگیں سن ہو گئی تھیں۔ اسے خود پر غصہ آرہا تھا کہ اتنا اور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پتا نہیں کہیں ناراض ہو کر وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔

یہ خیال اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے فون کرنے والی تھی جب لاک کھلنے کے بعد دروازہ بھی کھلا اور وہ کچھ شارپز سمیت اندر داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔

”کہاں گئے تھے آپ؟ پتا کر نہیں جاسکتے تھے۔ پتا ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔“ اس نے ہاتھ میں پکڑے شارپز صوفے پر رکھے اور خود بھی کرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔

”تم ناراض جو تھیں مجھ سے۔ تمہیں بلا کر اور باتیں سنتا۔“

”آپ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے دنیا کی ساری بد تمیزی مجھ میں ہے۔ میں ایک ظالم خون پینے والی چیز ہوں اور آپ معصوم مظلوم جن کے منہ سے صرف پھول جھڑتے ہیں۔ برا ظلم ہو رہا ہے آپ پر۔“

اب اب دیکھو تم خود ہی اپنے آپ کو چیل کر رہی

”ہو۔“

”ہاں۔ آپ کو میں چیل ہی لگتی ہوں گی حور پر یاں تو وہ گرل فرینڈ ہی لگتی ہوں گی۔“ اس کے جلے ہوئے انداز پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔

”کھانا لگا رہی ہوں۔ آجائیں۔“ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔

”میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا۔ آج آپ کے لیے اسپیشل کھانا بنایا تھا۔ وہ بھی ٹی وی سے ریسیپی نوٹ کر کے۔“ وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ”اور آپ مجھے طنز کرتے ہیں۔“

وہ ہاتھ دھو کر ٹیبل تک آیا تھا۔
 ”خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔“ وہ چٹکارا لے کر بولا۔

”اتنی محنت سے بنایا ہے۔ رد دفعہ تو میرا ہاتھ جلا۔“ وہ اپنا ہاتھ دکھا کر بولی۔

”دکھاؤ!“ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا جو واقعی سرخ ہو رہا تھا۔ ”درد ہوا ہوگا؟“ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔

”ہوا نہیں تھا ابھی بھی ہو رہا ہے۔“ اس نے جتنا ضروری سمجھا تھا۔

دراب نے جھک کر اس کے ہاتھ کو جو تھا۔ ”اب نہیں کرے گا کیونکہ یہ پیار برنال سے اچھا کام کرتا ہے۔“
 وہ تو کہہ کر پلیٹ میں سالن ڈالنے لگا جبکہ وہ وہیں ساکت کی ساکت رہ گئی۔

”تم بھی کھاؤ نا۔“ وہ مصروف انداز میں کہتا ہوا شاید اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے سنبھل کر سالن ڈالنے لگی۔

”تم تو اتنا اچھا کھانا پکاتی ہو۔“ وہ کھانا کھا کر بولا۔ ”اس کا تو تمہیں انعام ملنا چاہیے۔“ کھانا کھا کر وہ شرارتی انداز میں بولا۔

”نہیں، ٹھیک ہے۔“ وہ ایک دم کرسی چھوڑ کر کچن کی طرف بھاگی تھی۔ وہ منہ بنا کر ٹی وی لاؤنچ میں آ گیا۔

”یہ تو دیکھ لو جو تمہارے لیے اتنی خواری کے بعد لایا ہوں۔“ اسے مسلسل کچن میں مصروف دیکھ کر اسے آواز لگانی پڑی اور جبہ جو فضول کی چیزیں چھیڑ کر بیٹھی تھی اسے باہر نکلتا ہی پڑا۔

جب نے شارپز میں جھانکا اس میں تین چار سوٹ تھے وہ بھی ڈیزائنرز۔

درا ب کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر عجیب سے رنگ تھے ایک تپش جو اس کو حصار میں لے رہی تھی۔
 ”اگر ماننے والی ہوئی تو۔“ وہ نظریں جھکا کر ہاتھ کھینچنے لگی۔

”تم تو ابھی سے مکر رہی ہو پھر کہتی ہو۔ بات مانتی ہوں۔“

درا ب مزید اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی پیش رفت پر اس نے روکا نہیں تھا، لیکن یہ فیوں چند لمحوں کا تھا فون کی بیل پہلی بار درا ب کو زہر لگی تھی جبکہ جبہ کا سارا چہرہ وہ بک اٹھا تھا وہ ایک دم تیزی سے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ فون اس کا بج رہا تھا۔ اسکرین پر آنے والے نمبر نے اسے حیران کیا تھا۔ اس نے فون آف کر دیا تھا۔
 ”کون تھا؟“

”ٹابش کا فون تھا۔“ چینل بدلتے درا ب کا موڈ نہ جانے کیوں خراب ہو گیا۔
 ”تو کون بات۔“

”میرا موڈ نہیں۔“ وہ منہ بناتے ہوئے بولی ”درا ب جانتا تھا اس ٹابش کو کس چیز کی کھلی ہو رہی ہے۔ اس دن ریسٹورنٹ میں اس نے جبہ کو روٹے ہوئے دیکھ لیا تھا اب داستان سنی ہو گی۔ جبہ کا موڈ اچھا ہو گیا تھا وہ اسے کل والے سوٹ کے ساتھ میچنگ کا تیار ہی تھی جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔

پکن سے فارغ ہو کر اس نے شادر لیا اور درا ب کی پسند کا ہو سوٹ اٹھاتے ہوئے مسکرا دی جب وہ تیار ہو کر آئینے کے آگے کھڑی ہوئی تو کتنی دیر تک خود کو دیکھتی رہی۔

”مسٹر درا ب! آج جب آپ مجھے دیکھو گے نا تو ساری لڑکیاں بھول جاؤ گے۔ ابھی میرے جلوے دیکھے کہاں ہیں۔“ کانوں میں ایر رنگ پہنتے ہوئے وہ اس سے خیالوں میں باتیں کر رہی تھی۔ آئی لائٹر اور میچنگ لپ اسٹک کے ساتھ اس کا چہرہ دمک اٹھا تھا خود کو دیکھتے ہوئے اس نے غور سے اپنی آنکھوں کو دیکھا اور مسکرا کر کاہل اٹھا لیا۔ کاہل لگتے ہی آنکھیں جیسے بول اٹھی تھیں وہ بڑے ناز سے مسکرائی تھی۔

درا ب کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے چائے کے ساتھ کباب اور ننگشس فرائی کیے اور ٹیبل پر سجایے۔ آج اس نے درا ب پر حسن کے ساتھ اپنے سکھراپے کی بھی ڈھاک بٹھانی تھی۔ تصور میں وہ اس کا حیران چہرہ دیکھ

”کیسے لگے؟“ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔

”بہت خوب صورت ہیں۔“ اسے واقعی پسند آئے تھے۔ ”لیکن یہ تو بہت مہنگے ہوں گے۔“

”اف!“ درا ب نے گہرا سانس لیا۔ ”تم قیمت کو چھوڑو۔ یہ بتاؤ تمہیں پسند ہیں؟“

”پسند ہیں لیکن کیا ضرورت تھی میرے پاس تھے۔“
 ”اوکے۔ میں کل واپس کر آؤں گا۔“ وہ کہہ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔

”اب اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے۔“

”خوشی والی بھی کوئی بات نہیں لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں جب ان کو کوئی تحفہ ملتا ہے۔“

”آپ کو بڑا پتا ہے لڑکیاں کب خوش ہوتی ہیں اور کب ناراض؟“

”کیا کروں۔ لڑکیوں سے واسطہ ہی بہت پڑتا ہے۔“ وہ پھر اسے چڑانے لگا تھا۔

”اب آپ میرا موڈ آف کر رہے ہیں۔“

”الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹنے میں موڈ خراب کر رہا ہوں اور جو تم نے کیا وہ۔“

”میں نے کیا کیا؟“ وہ مسکرا کر معصومیت سے بولی تو درا ب کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا ہی نہیں سکا۔

”کل فیروز کی طرف دعوت ہے۔ شام کو تیار رہنا اور یہ والا پہننا۔“ اس نے میوٹ سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دل کی آواز کو نظر انداز کرنے کے لیے وہ بات بدل گیا۔

”لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ وائٹ زیادہ اچھا لگے گا۔“ وہ سفید سوٹ کی قمیص ساتھ لگا کر اسے دکھاتے ہوئے بولی۔

”نہیں یہ میوٹ۔“

”نہیں یہ وائٹ۔“

”تم کبھی میرا کہنا نہیں مانتیں۔“ درا ب کو اس سے تکرار کرنے میں مزہ آتا تھا کیونکہ وہ بچوں کی طرح چڑتی تھی۔

”کب میں آپ کا کہنا نہیں مانتی۔“ وہ ایک دم جذباتی ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔

”اچھا کب مانا ہے؟“ وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔

”آپ نے ایسا کیا کہا جو میں نے انکار کیا؟“

”ہوں اچھا۔ اب میں جو کہوں گا وہ تم مانو گی۔“ درا ب نے کہنے کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے جب

READING
Section

نہیں جانتے۔ جس وقت ہمیں تمہاری ضرورت تھی تم کہیں منہ چھپا کر بیٹھ گئے تھے۔ تمہیں مجھ سے تعلق جوڑتے ہوئے اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں نظر آرہے تھے۔ آج تمہیں لگتا ہے۔ تم میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ اس وقت میں تمہیں بد کردار نظر آرہی تھی۔ تم بزدلوں کی طرح ایک بد معاش کے سامنے مجھے پھینک کر چلے گئے۔ لو بھائی لے جاؤ پر مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرا باپ تمہارے سامنے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتا رہا، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اس کو نام دے دو۔ سہارا دے دو۔ پر ہمیں۔ اس وقت تم لوگ فرعون بن گئے تھے۔ آج کیسے محبت جاگی ہے۔ میں تو آج بھی وہی بقول تمہارے بد کردار ہوں۔“

اسے پتا ہی نہیں چلا اونچی اونچی آواز میں بولنے کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کا کاہل جو کسی کو دیوانہ بنانے کے لیے سجایا تھا، وہ کسی کی بے رحم یادوں کی وجہ سے ہمہ نکلا ہے۔ ”مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، مرچکی ہیں میری ساری خواہشیں، اٹھ چکا ہے اعتبار اپنوں سے، میرا باپ مر گیا۔ اس کے ساتھ میں نے سارے رشتے دفن دیے۔ میں بس ایک آدمی کو جانتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، دراب اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نہیں تھا۔“

وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے جب! تم خود سوچو کیا وہ ذرا بھی تمہارے آئیڈیل سے میل کھاتا ہے؟ کیا تمہیں وہ سب خوشیاں دے سکے گا جو میں دے سکتا ہوں؟ وہ جتنا اچھا ہے وہ میں نے اس دن دیکھ لیا تھا جب تم ریسٹورنٹ سے روٹی ہوئی نکل رہی تھیں اور کیسے اس نے گھسیٹ کر جانوروں کی طرح تمہیں گاڑی میں ڈالا تھا۔ مجھے تو تم پہلے بھی خوش نہیں لگتی تھیں۔ اس دن میں ساری رات سو نہیں سکا، میں نے تمہیں کتنے فون کیے، لیکن تم نے میری بات تک نہیں سنی۔ میں تمہیں اس درندے کے چنگل سے بچانا چاہتا ہوں جس کے ہاتھ میں انکل نے زبردستی تمہارا ہاتھ تھما دیا۔ مجھے ایک ان پڑھ شخص کی ذہنیت کا اندازہ ہے، وہ کس طرح تمہیں نارچ کر تا ہوگا۔ اب بھی سمجھ جاؤ جب! وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس وقت اس نے ترس کھایا تھا یا پتا نہیں اس کا کیا منصوبہ تھا۔ تم جیسی لڑکی کو پا کر تو اس کی لائٹری نکل آئی ہوگی وہ کیوں تمہیں چھوڑے گا، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں

کر مخلوظ ہو رہی تھی۔

بیل کی آواز بردہ حیران ہوئی کیونکہ اس کے پاس چابی تھی وہ چولہا بند کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دو ٹپا ٹھیک کر کے اس نے دروازہ کھولا لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔

”تم!“ وہ ہاتھ پر بل ڈال کر بولی جبکہ تابش اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جب نے ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ چونکا۔

”اندر آنے کو نہیں کہو گی۔“

”نہیں، جو بھی بات کرنی ہے۔ یہیں بتاؤ۔“

”اتنی بے اعتباری جب! ہم کزن کے علاوہ منگیتز بھی رہ چکے ہیں اور پلیز بہت دور سے آرہا ہوں۔ گھر تو دشمن بھی آجائے تو اس سے ایسا سلوک نہیں کرتے اور میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔“

جب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے راستہ دینا پڑا، لیکن دروازہ اس نے بند نہیں کیا۔

”ایک گلاس پانی ملے گا؟“ صوفے پر بیٹھ کر اس نے کہا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی اور پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھا۔ ”اب جو کہنے آئے ہو جلدی کہو۔“ وہ یونہی دوسرے صوفے کے پاس دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑی رہی۔

”تمہارا گھر کافی خوب صورت ہے۔“

”اطلاع دینے کا شکریہ۔“ وہ بے مروتی سے بولی۔

”تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔“

”تم یہ پوچھنے آئے ہو؟“ جب نے ابرو اچکا کر اسے

دیکھا۔

”ای نے میری منگنی کر دی ہے اور دو ماہ بعد میری شادی

ہے۔“

”سارک ہو۔“

”لیکن ای نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میں اس

رشتے سے خوش نہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں

اور ہر آنے والا وقت مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں

تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گا۔“ وہ کچھ نہیں بولی۔

”جو ہوا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟“ جب نے غصے سے

اسے دیکھا۔

”کیا قصور تھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں اور میرا

بات کس طرح ذلیل ہوئے ایک سہارے کے لیے۔ کیا تم

ہوں ناں۔ تم نے بے شک ہمیں پرایا کر دیا ہو، لیکن ہم آج بھی تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ تمہاری پروا کرتے ہیں۔“
 ”تابلش!“ وہ چیخا۔ ”ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔“ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔

”تم جتنا مرضی مجھے دھتکار لو، لیکن میں بار بار آؤں گا“ میں تمہیں اس ظالم انسان سے چھٹکارا دلا کر رہوں گا۔“
 ”تم نے سنا نہیں۔“ وہ پھر چیخا۔

”جیج کر تم چھپا نہیں سکتیں کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔“ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔

”رفع ہوتے ہو کہ کسی گارڈ کو بلاؤں۔“ اب کی بار وہ نکل گیا تھا۔

وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی پھر تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں جا کر اچھی طرح منہ دھویا، سارا کاجل پھیل کر اسے اچھا خاصا مضمک خیز بنا رہا تھا۔ اس نے نشو سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ اور دوبارہ منہ دھو کر آئینہ دیکھا۔ سرخ چہرہ اس کے رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ منہ تھمتھاتی ہوئی باہر نکلی تو دراب کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھنک کر رگ گئی۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔

”آپ!“ وہ تھوک نکل کر بولی اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔

”ہاں میں۔“ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ”تمہیں کیا ہوا؟“
 ”مجھے۔ کچھ بھی نہیں۔“ وہ تیزی سے پن کی طرف گھومی اور پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے کیا جسے تھامتے ہوئے بھی اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔
 ”ایسا لگا ہے تم رونی ہو اور کافی رونی ہو۔“ جب نے خود کو مزید رونے سے بمشکل روکا۔

”ایسا کچھ نہیں۔“
 ”ہوں۔“ وہ پانی پی کر اٹھا، لیکن ڈانٹنگ ٹیبل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔

”کوئی آیا تھا؟“ جب یوں اچھلی جیسے کسی کسی بچھونے ڈنک مار دیا ہو۔
 ”کیوں؟“

”یہ کیا جواب ہوا کوئی آیا تھا؟“ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔

”نہیں تو۔“ وہ تھوک نکل کر بولی۔ دراب نے گہرا سانس لیا۔

”تو یہ اتنا اہتمام؟“ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔
 ”آپ کے لیے سب بنایا ہے۔“

”اچھا!“ وہ مسکرایا۔
 ”پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔“ اب کی بار جب نے اس کا سنجیدہ اور کھنچا ہوا انداز محسوس کیا۔

”میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے لیے کچھ بناؤں۔“
 ”میں سمجھ رہا تھا، پتا نہیں کون خوش قسمت ہے جس کے لیے کھانے کا اہتمام ہوا ہے اور تم نے نیا جوڑا بھی پہنا ہے، یقیناً“ میک اپ بھی کیا تھا جو میرے آنے سے پہلے صاف کر دیا۔“ جب نے اس کا منہ دیکھنے لگی۔

”دراب! آپ نے کہا تھا تاکہ آج فیروز بھائی کے گھر جانا ہے۔ آپ نے یہ میروں ڈریس سلیکٹ کیا تھا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے ریڈی ہو گئی تھی۔ میک اپ بھی کیا تھا پر میرا کاجل پھیل گیا اس لیے مجھے دوبارہ منہ دھونا پڑا۔“

جب کی خود سمجھ میں نہیں آیا، وہ کیوں اتنے آرام سے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ اسے ایک بار خیال آیا کہ اسے بتا دے کہ تابلش آیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ کل صرف اس کا فون آنے سے اس کا موڈ کتنا خراب ہو گیا تھا۔ وہ جو اس کے اتنے قریب آ گیا تھا اس فون کے بعد اس کے انداز اور نظروں میں کتنی اجنبیت آ گئی تھی۔ اب بھی کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے اس نے بتایا نہیں پر اس کے باوجود وہ اس سے اتنا اکھڑا اکھڑا بات کر رہا تھا حالانکہ وہ جتنے بھی خراب موڈ یا غصے میں ہو اس سے ایسے بات نہیں کرتا تھا۔

وہ یونہی کھڑی رہ گئی جبکہ وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ یونہی کھڑی رہی، ساری چیزیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں اس کے جذبات کی طرح۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر اندر آ گئی وہ آئینے کے آگے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، پہلے اس نے لپ اسٹک اٹھائی دراب نے کن اکھیوں سے اس کے ہونٹوں پر ابھرتے میروں کلر کو دیکھا لپ اسٹک لگا کر جب نے دراب کی طرف دیکھا، لیکن تب تک وہ نظریں گھما چکا تھا اس نے مایوس ہو کر آئی لائٹس اٹھالیا۔ پہلے کھولا پھر بند کر دیا۔ دراب کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ لائٹس رکھ کر اس نے پرفوم اٹھالیا۔ وہ پرفوم لگا رہی تھی جب دراب بالوں میں برش کرنے لگا۔

”لائنر کیوں نہیں لگایا؟“ وہ کوئی جواب دے بغیر پھر آئینے کے سامنے آگئی۔ اس کو اپنے ہاتھ کانپتے محسوس ہو رہے تھے۔

”مجھ سے ٹھیک لگے گا نہیں۔“

”میں باہر چلا جاؤں۔“

”ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟“ وہ اس کے بیگانے رویے پر حیران تھی۔

”میں نے سوچا شاید میرے سامنے تم نہیں لگانا چاہتیں۔“ جب نے افسوس سے سر ہلایا اور سر جھٹک کر بڑے انہماک کر ساتھ لائنر لگانے لگی۔

”اب ٹھیک ہے؟“ اس نے دونوں آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ وہ مسکرا دیا توجہ کی جان میں جان آئی۔



فیروز کے گھر میں اس کا والہانہ استقبال ہوا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ دراب کی دوستی فیروز سے کیسے ہوئی؟ اس نے سوچا آج ضرور پوچھے گی۔ فیروز کی امی اور بھابھی اس سے منظور صاحب کا افسوس کر رہی تھیں جب اس کی شکل دیکھ کر فیروز نے ٹوک دیا۔

”امی! کوئی اور بات کریں۔ ندامت نے بھابھی کو گھر دکھایا۔“ فیروز نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ فوراً ”کھڑی ہو گئی۔“

”آپ کا گھر بہت اچھا ہے۔“ جب نے دل سے تعریف کی۔

”لیکن آپ کے گھر کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔“ سچ دراب بھائی کی میں جتنی بھی تعریف کرے وہ کم ہے صورت کے ساتھ سیرت میں بھی یکتا ہیں بہت نرم دل کے۔ آپ کے فادر سے بھی ان کی اچانک ملاقات ہوئی تھی۔ فیروز بتاتے تھے۔ آپ کے فادر کو لے کر دراب بھائی بہت سیریس تھے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز سے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ میں تو ہمیشہ فیروز سے کہتی تھی وہ لڑکی بڑی لگی ہوگی جسے دراب بھائی جیسا چاہنے والا کھرا شخص ملے گا۔ ہیرا ہیں ہیرا۔“

وہ دراب نامہ شروع کر چکی تھی اور اسے دراب کی تعریف سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دراب کے لیے اس کے دل میں عزت اور برہم گئی تھی۔ اس کے باپ کے لیے اس نے ہر کام بنا کسی مطلب کے کیا تھا۔

”اور آپ بھی کم نہیں جب بہت کیوت اور پیاری آخر

دراب بھائی کی چوائس بھی ان کی طرح کی ہی ہوگی نا۔ دراب بھائی کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بہت کم عمر تھے جب ان کے پیئرس کی ڈیٹہ ہو گئی، لیکن بہت اسٹرونگ ہیں، اکیلے سب کچھ ہینڈل کیا۔ ہمارے ساتھ تو ان کے فیملی ریلیشن ہیں فیروز اور دراب بھائی کو زیادہ تر لوگ بھائی سمجھتے ہیں۔ میری اور فیروز کی شادی بھی دراب بھائی نے کروائی تھی تو میسج ہے نا۔“

وہ تھوڑا شرمناک ہو کر بولی توجہ مسکرا دی۔

”ہم سب کافی عرصے سے ان کے پیچھے بڑے تھے شادی کر لیں پر مانتے نہیں تھے لڑکیوں سے پلوہائے تو بہت تھی پر شادی کے لیے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر سنا تھا کسی سے انہیں محبت ہو گئی تھی پھر بتا نہیں کیا ہوا۔ خیر فیروز نے بتایا آپ سے شادی ہو گئی۔ اچھا ہے پھر جو قسمت میں ہوتا ہے۔“

جب کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور اس نے صرف اس کے اور پاپا کے کہنے پر اس سے شادی کی۔“

وہ دونوں لان میں چکر لگا رہی تھیں جب پورچ میں آکر ایک گاڑی رکی اس میں سے ایک ماڈرن اسمارٹ سی لڑکی نکلی۔

”ہائے!“ اس نے دد سے ہی ہاتھ ہلایا۔

”او سمن! یہ سمن ہے فیروز کی پھوپھو کی بیٹی اور سمن! یہ دراب بھائی کی بوائےف۔“

جب بڑی مشکل سے مسکرائی، لیکن دوسری طرف یہ کوشش بھی نہیں کی گئی۔

”اچھا تو یہ ہے وہ جس پر دراب نے ترس کھا کر شادی کر لی۔“ اس نے سر سے پیر تک اتنی حقارت سے جب کو دیکھا کہ جب کو اپنے سارے وجود میں آگ لگتی محسوس ہوئی۔ جبکہ تعارف کرواتی ندا اسٹپٹا گئی۔

”سمن پلیز۔“

”اتنی توپ چیز تو نہیں ہو کہ دراب نے ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لی۔“

اس کا بس نہیں چل رہا تھا جب کا گلا دبا دے اور کچھ ایسی کیفیت جب کی تھی تب ہی فیروز باہر آ گیا۔ ندا نے شکر ادا کیا۔

”ندا اور سمن! تم لوگ اندر چلو کھانا سرد کرو۔“ سمن نے ایک چبھتی نظر جب پر ڈالی اور ندا کے ساتھ اندر کی

طرف بڑھ گئی۔

اس نے سر اٹھا کر کھلے آسمان کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے تب ہی اس نے اپنے قریب دراب کی آواز سنی۔

”کیا ہوا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟“ وہ کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔

”ایسے ہی ٹھنڈی ہوا اچھی لگ رہی تھی۔“ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔

”تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟“ جب کے چہرے پر مسکراہٹ آگئی تھی۔

”آپ میرے چہرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں۔“ اور اب کی بار خراب موڈ کے باوجود وہ مسکرا دیا تھا۔

”کیونکہ تم جو نہیں دیکھتیں کبھی غور سے میرا چہرہ دیکھا ہے۔“ جب نے نظریں اس کے چہرے پر جمادیں اور چند لمحوں بعد ہٹالیں۔

”میں آپ کی طرح چہرہ شناس نہیں۔“ دراب نے صرف سر ہلایا تھا۔

”چلو اندر سب وٹ کر رہے ہیں۔“ وہ گہری سانس لے کر چل پڑی ڈائنگ ہال کے اندر داخل ہونے سے پہلے دراب نے بالکل اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا لیکن وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔

”آؤ بیٹا! تم دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔“ فیروز کی امی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔

”ماشاء اللہ چاند سورج کی جوڑی ہے تم دونوں کی“ نظر نہ لگے۔

دراب نے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیروز نے پہلے مسکرا کر دراب کو اور پھر کن اکھیوں سے سمن کو دیکھا جو ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔

”آئی! سورج کون اور چاند کون؟“ دراب نے پہلے اس کی پلیٹ میں چاول ڈالے اور پھر اپنی۔ اتنی عزت افزائی پر جب حیران ہونے کے ساتھ بزل بھی ہو رہی تھی کیوں کہ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔

”تم سورج اور جب چاند۔“

”آپ کا مطلب ہے ہمیں زیادہ خوب صورت ہوں

کیوں کہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔“

”میرے خیال میں تو چاند زیادہ خوب صورت ہوتا ہے۔“ فیروز نے بھی شرارت سے لقمہ دیا تھا۔

”جب سے پوچھ لیتے ہیں۔ بتاؤ جب! دراب بھائی خوب صورت ہیں۔“ اب کے نڈانے شرارت سے اسے دیکھا کچھ دیر پہلے کی بے عزتی کو دراب نے عزت میں بدل دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کے چہرے سے دل کی بات جان لیتا تھا۔ وہ جاؤ کر تھا۔ وہ اپنے دیے ہوئے نام پر خود ہی مسکرا اٹھی۔

”دراب سنا ہے شادی تو تم نے بڑی امیر جنسی میں کر لی وہ بھی شاید اسپتال میں وہ تو سمجھ آتی ہے تم نے انوائٹ کیوں نہیں کیا، لیکن ولیمہ بھی نہیں کیا۔ کیا سارے پیسے وہیں خرچ ہو گئے تھے؟“ سمن زیادہ دیر خود کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ سب نے افسوس سے سمن کو دیکھا سوائے دراب اور جب کے۔

”تم افسوس کیوں کرتی ہو سمن! مجھے پتا ہے میری شادی کا سب سے زیادہ ارمان تمہیں ہی تھا۔ ولیمہ ہو گا تو پہلا انوی نیشن تمہیں ہی جائے گا آخر تم فیروز کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو سکتی۔“

نڈا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ جبکہ سمن کا چہرہ بالکل لال پڑ گیا تھا اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔

وہ واپس آنے لگے تو فیروز کی امی نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ ”یہ“ وہ لیتے ہوئے ہلکچائی۔

”بیٹا! تم پہلی بار آئی ہو، دراب میرے لیے بالکل فیروز کی طرح ہے اگر دراب کی ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی بالکل ایسے ہی تمہیں شگن دیتی۔ شگن سے انکار نہیں کرتے۔“

جب نے وہ پکڑ لیا۔ ”دیکھو، تمہیں پسند آیا۔“ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کو جھٹکا لگا۔ اس میں ایک بھاری گولڈ کاسیٹ اور اس سے میچنگ کڑے تھے۔

”آئی! یہ بہت زیادہ ہے۔“ وہ پریشان ہو گئی۔

”میں نے کہا نا جب! شگن کو انکار نہیں کرتے۔“ اس نے پریشان نظروں سے دراب کو دیکھا۔

”لے لو۔“ اس کے کہنے پر اس نے پکڑ لیا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔

”فیروز! ہمیں یہیں اتار دو۔“ اپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر دراب نے گاڑی رکوا دی تھی۔

READING
Section

جبہ اور فیروز دونوں نے اسے دیکھا۔

”میرادل واک کرنے کو چاہ رہا ہے۔“ فیروز ہنس پڑا تھا۔
”تمہارا دل بھی عجیب ہے۔“ وہ دونوں اتر گئے۔ دراب
جو وہاں بہت چمک رہا تھا۔ اب بالکل ویسا ہو گیا جیسا کل
سے تھا۔ خاموش سوچتا ہوا۔ اتنی خاموشی سے جبہ کو
وحشت ہونے لگی تھی۔

”ہمیں آنٹی سے اتنا قیمتی گفٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔“
”کیوں؟“

”تحفہ وہ لینا چاہیے جو آپ لوٹا سکیں ہمارے لیے یہ
سب کرنا مشکل ہے۔“

”یہ تمہارا سر درد نہیں۔“

اس کے لہجے پر وہ ایک دم چپ کر گئی۔ دراب کو خود ہی
جیسے احساس ہوا۔

”میں آنٹی کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں برا لگتا تم
پریشان نہ ہو میں کروں گا۔“

”آپ سے ایک بات پوچھوں۔“

”پوچھو۔“

”آپ کسی بات سے مجھ سے ناراض ہیں۔“ سامنے

دیکھا دراب تھوڑا چونکا تھا۔

”کیوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟“

”آپ پہلے کی طرح جی ہو نہیں کر رہے۔“

”مثلاً؟“

”مثلاً؟“ وہ سونے لگی سب کچھ ویسا ہی تھا پھر بھی
کوئی ڈورا بھی تھی پتا نہیں پر مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے
کسی بات پر خفا ہیں۔“

”اچھا۔ وہ مسکرایا۔“ تو تمہیں کیا لگتا ہے تم نے کیا غلطی
کی ہے جو میں ناراض ہوں۔“

”میں نے تو کچھ نہیں کیا۔“ وہ بہت سوچ کر بولی۔

”تو پھر تمہیں میری ناراضی کی پروا بھی نہیں کرنی
چاہیے۔“ جبہ رک گئی چار قدم چل کر اسے احساس ہوا
کہ وہ اس کے ساتھ نہیں اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ آنسو
بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آیا۔

”کیا میں نے تم سے کوئی شکایت کی۔؟“

”کریں نا مجھے پتا تو چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔“ اس کے
آنسو باہر نکل آئے ذہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور وہ بھی اس کو
دیکھنے لگی۔

”میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔“ آخر میں وہ تھک
”میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔“

کر بولا وہ پھر بھی نہیں ملی۔

”جبہ! کیا ہوا اب؟“ وہ اب جھنجھلا یا اس سے ناراض
ہو کر جیسے وہ خود سے ناراض ہو گیا تھا۔

”ابھی بھی نہیں سچ۔“ اس کے آنسوؤں میں روانی
آگئی تھی۔ دراب کچھ دیر ابھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا
پھر مسکرا دیا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے
اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آگئی۔

”ہم گھر جا رہے ہیں جبہ پاکستان میں سڑکوں پر ایسے
سین ممنوع ہیں۔“ اس کے شرارتی انداز پر وہ جھینپ کر
اس سے الگ ہوئی۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔

چینج کر کے جب وہ واپس آئی تو وہ موبائل پر کچھ ٹائپ
کر رہا تھا وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر کاؤچ پر بیٹھ کر بیوی دیکھنے
لگی۔ لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس پر بھی نظر ڈال لیتی
تھی۔ یہ آنکھوں میں دھند تھا جب اس نے دیکھا اور دراب نے
بھی اس کی چوری پکڑ لی۔

”مجھے لگتا ہے جبہ تمہیں کچھ اور بھی کہنا ہے۔“ وہ
دونوں ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکا کر بیٹھ گیا اور وہ جی بھر کر
شرمندہ ہوئی۔

”کہہ دو جو بھی دل میں ہے۔“

”میں کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں پاتی۔“

”کبھی کبھی نہیں۔ تم مجھے کبھی سمجھیں۔“
دراب نے مسکرا کر اس کی تھنج کی۔ لیکن وہ اپنی الجھن میں
تھی۔

”جو آپ نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور جو لوگ
آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ان میں بہت فرق ہوتا ہے،
میں سمجھ نہیں پاتی۔“

”ایسا کیا فرق ہے جو تمہیں لگتا ہے۔؟“

”آپ کی اور فیروز بھائی کی دوستی بہت بڑا فرق ہے دوستی
تو ایک جیسے لوگوں میں ہوتی ہے۔“

”دوستی کے لیے ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ دولت
دیکھ کر دوستی یا رشتے نہیں باندھے جاتے اگر ایسا ہوتا تو
صرف مطلب ہی مطلب ہوتا پیار کہیں نہ ہوتا۔“

”آج جب میں نے ند ابھائی سے ان کے گھر کی تعریف
کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر تو اس سے بھی اچھا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟“

دراب نے کندھے اچکائے ”اس کا مطلب تو وہی بتا
سکتی ہیں۔“

”اور وہ سمن جو تھی اس نے بھی بہت عجیب باتیں کیں کہ میں آپ کے قابل نہیں تھی کہاں آپ کی کلاس اور کہاں میں نڈل کلاس پتا نہیں کون سی مظلومیت دکھا کر میں نے آپ کو پھانسا ہو گا لاکھوں لڑکیاں آپ پر مرتی تھیں وہ بھی آپ سے محبت کرتی تھی“ آپ کی شادی اس سے ہونے والی تھی لیکن آپ کو مجبوراً ”مجھ سے شادی کرنی پڑی کیونکہ آپ بہت خدا ترس ہیں۔ کسی کا دکھ آپ سے دیکھا نہیں جاتا۔“

”ایسا اس نے کہا؟“ وہ مسکرا رہا تھا۔

”یہ ہنسنے والی بات نہیں میں سیریس ہوں سب کیوں ایسا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا میں واقعی آپ کے لیے ایک مجبوری تھی۔“

درا ب کتنی دیر سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔

”مجھے نہیں پتا لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے تم کیا سمجھتی ہو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم مجھے نہیں سمجھیں۔“ اور جبہ ہکا بکارہ گئی۔

”ہر وقت شک، ہر وقت طنز۔ میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں صفائیاں دیتے دیتے۔ میں نے کبھی تم سے کوئی سوال کیا۔ تمہارا ماضی کرید ا جبکہ تم ہر روز ایک نیا شک لے کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ میں نے کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کہتی ہے جبکہ تمہیں ساری دنیا کی پرواہ ہے۔ ایک مجھے چھوڑ کر کیا کچھ نہیں کرتا۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے بولو۔“ وہ غضب ناک ہو کر بولا تو جبہ ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔

”ایسا نہ کروں جبہ کو برا لگ جائے گا یہ مت کروں جبہ ہرٹ ہو گی لیکن تمہیں کبھی خیال آیا۔ میں کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری کتنی باتیں مجھے ہرٹ کرتی ہیں۔ غور سے دیکھو مجھے۔“ وہ ایک دم اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔

”انسان ہوں میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں اور اس سے پہلے میں ایک مرد ہوں۔“ اب کے اس کے قریب جا کر اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا جبکہ جبہ تو سکتے میں آگئی تھی۔

”میں کیا چاہتا ہوں۔ کبھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہاری خواہشات کا احترام کروں اور تمہارا فرض؟ میں اگر تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ تو تمہیں لگتا ہے ”ترس کھا رہا ہوں۔ بوجھ ہو تم بھجار رہا ہوں۔ شوہر بن کر دیکھنے لگتا ہوں تو اچانک تمہیں احساس ہونے لگتا ہے میں زبردستی کر رہا ہوں۔ آٹھ ماہ ہونے والے ہیں ہماری

شادی کو۔ لگتا ہے شادی ہے؟ تمہیں دیکھتا ہوں نا تو دل پاگل ہونے لگتا ہے، تمہاری خاطر کس طرح خود کو روکتا ہوں۔ کہیں تم ہرٹ نہ ہو جاؤ۔ میرے پیار کو زبردستی نہ سمجھ لو۔ میری محبت کو تاوان نہ سمجھ لو۔ تھک گیا ہوں خود کو روکتے روکتے۔ مجھے تو آج تک یہ ہی پتا نہیں چلا کہ تم نے مجبوری سے آگے بھی مجھے کچھ سمجھا ہے یا نہیں، شوہر کا درجہ بھی زیتی ہو یا صرف احسان کا قرض چکا رہی ہو تمہارا اکرن میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اس شادی سے خوش نہیں وہ صرف مجبور ہے کیونکہ وہ احسان فراموش نہیں بننا چاہتی اسے دعویٰ ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، صرف مجبور ہو تم میری بیوی ہو لیکن میں ایسا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم نے کبھی مجھے نہیں کہا۔ ہماری شادی کیسے ہوئی ہم دونوں جانتے ہیں تو پھر کیا واقعی سمجھوں تابش تھیک کہہ رہا ہے تم میرے ساتھ رہ کر احسان کا بدلہ چکا رہی ہو۔ وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں کہ تمہیں ساری آسائشیں دے سکوں جبکہ وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے جو تمہاری خواہشات تھیں۔ میرے لیے آج بھی تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں تمہاری خوشی چھینوں جبکہ ہم پہلے دن ملے کر چکے ہیں سو تم آزاد ہو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔“ وہ کہہ کر چل پڑا دروازے کے پاس وہ ایک بل کے لیے رکا تھا۔

”اور ہاں سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات نے دی کہ تم نے مجھے مجھ سے جھوٹ بولا تابش اس دن آیا تھا اور تم نے میرے بار بار پوچھنے پر یہی کہا کہ کوئی نہیں آیا۔ تمہارے اس جھوٹ نے مجھے بہت تکلیف دی جبہ بہت۔“ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا جبکہ جبہ تو جیسے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ ایک بل میں کیا ہو گیا تھا۔ اس کی تو دنیا بل کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ صدمے کے مارے بل ہی نہیں سکی۔ کچھ دیر بعد جیسے اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا حقیقت تھی وہ جاچکا تھا وہ دروازے کی طرف بھاگی، کارڈیور بالکل خالی تھا وہ ان ہی قدموں سے واپس آئی اس نے اس کا موبائل نمبر ڈرائی کیا وہ بند جا رہا تھا۔ وہ یا گلوں کی طرح بار بار نمبر ڈائل کرتی رہی لیکن وہ تو اس کی قسمت کی طرح بند جا رہا تھا۔

”خدا کے لیے دراب! مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔“ وہ بند فون میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ رورو کر وہ

نڈھال ہو گئی تھی اسے لگ رہا تھا وہ مرنے والی ہے اور پھر اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی تھی۔
جب اس کی آنکھ کھلی تو نادیا کا چہرہ پہلے اسے دکھائی دیا۔
اس نے بے چینی سے اپنے اطراف میں دیکھا۔ وہ نہیں تھا اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔

”جبہ پلیز میری جان رو کیوں رہی ہو ہوا کیا ہے؟“ وہ اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔

”اس تابش نے میری ساری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ زہر بویا دراب کے دل میں وہ گھر آیا تو میں نے دراب کو نہیں بتایا۔ مجھے لگا ان کو علم نہیں۔ میں نے تو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ اس کے ذکر سے ان کا موڈ خراب ہو جائے گا بس درنہ تم جانتی ہو میرے دل میں کوئی چور نہیں۔ دراب سے مل کر اس نے کہا ہے کہ میں دراب کے ساتھ خوش نہیں۔ مجبور ہوں اس احسان کی وجہ سے جو انہوں نے مجھ پر اور پایا پر کیا اور میں ان سے نہیں تابش سے محبت کرتی ہوں۔ نادیا! یہ غلط ہے میں دراب سے بہت محبت کرتی ہوں میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر اور وہ مجھ سے کچھ پوچھے بغیر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی۔ نادیا نے بے ساختہ اسے لگے لگایا۔

”وہ ایسے کیسے تمہیں چھوڑ کر جاسکتے ہیں۔ اتنی پیاری بیوی انہیں کہاں ملے گی۔“

”مجھے بہلاؤ مت نادیا! میں نے انہیں آج تک کوئی خوشی نہیں دی۔ وہ میری آنکھیں میرا چہرہ تک پڑھ لیتے تھے اور میں کبھی اندازہ نہیں کر سکی وہ کیا چاہتے ہیں ان کا ہر الزام جائز ہے پر ایک موقع تو دیں۔“

”یہ تابش گھٹیا انسان خود تو شادی کر رہا ہے اور تمہاری بسی ہوئی دنیا اجاڑنے پر تلا ہے اور تم اتنی کمزور کیسے ہو گئیں جبہ! تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا۔“

”نادیا! میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ دراب تو ہر وقت میرے ناز ہی اٹھاتے تھے میں تو ان کے پیار کی عادی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی انہوں نے آرام سے بات کی لیکن اس میں شکایت تھی ناراضی تھی۔ الزام تھا۔ وہ دو دن سے چپ چپ تھے مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔“

”تم نے فون کیا؟“

”رات سے کر رہی ہوں بند جا رہا ہے۔“

”اتنے غیر ذمہ دار تو کبھی نہیں رہے۔“ نادیا بھی پریشان

”تم کو کیسے پتا چلا۔“
”میں نے تمہیں فون کیا تو کسی سلمی آنٹی نے اٹھایا انہوں نے بتایا تم بے ہوش ہو گئی ہو اور دروازہ کھلا ہے میں اسی وقت اسی حالت میں اٹھ کر آگئی۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ حالات ہیں۔“ جبہ نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا وہ اب بھی بند تھا۔ اس نے اب کے فیروز کا نمبر ملایا تھا۔

”السلام علیکم بھابھی! خیریت آج مجھے کیسے یاد کیا۔“
دوسری طرف فیروز کی مسکراتی آواز سنائی دی۔

”فیروز بھائی! دراب آپ کے ساتھ ہیں۔“
”نہیں تو۔ خیریت۔“ اب کہ وہ چونکا۔

”فیروز بھائی! وہ رات سے گھر نہیں آئے۔ آپ پلیز انہیں ڈھونڈیں اور جیسے ہی ملتے ہیں میری بات کروا میں۔“

”خیر تو ہے نا بھابھی! فیروز اب پریشان ہو گیا تھا۔“
”فیروز بھائی۔“ وہ اب رونے لگی تھی۔ ”میری کوئی غلطی نہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ان سے کہیں ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دیں۔“

”اوکے بھابھی! آپ پلیز رونا بند کریں میں دیکھتا ہوں۔“ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس وقت کہاں ہو گا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہیں تھا۔

”تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پتا ہے بھابھی کتنی پریشان ہو رہی ہیں اور فون کیوں آف کر رکھا ہے۔“ فیروز نے غصے سے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔

”دراب! میں تم سے بات کر رہا ہوں۔“
”سن رہا ہوں۔“

”تو جواب دو تم بھابھی کا فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے۔“

”کیونکہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔“
”ہیں۔“ فیروز حیران ہوا۔ ”یہ تم کہہ رہے ہو۔“

”ہاں میں کہہ رہا ہوں۔“ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو لال ہو رہی تھیں۔

”مجھے حیرت ہو رہی ہے دراب! تم وہی دراب ہو جس نے جبہ کو پانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور تک بن گئے تھے ایک فلیٹ میں رہنے لگے تھے۔“

”میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں فیروز! تم جانتے ہو۔“

اسے جس طرح کی نظروں سے دیکھا تھا۔

”بہت افسوس کی بات ہے دراب بھائی میں آپ سے یہ امید نہیں کرتی تھی۔ میری دوست تو خالص ہے آپ نے اس پر شک کیا جو باپ کے مرنے پر اتنا نہیں روئی آپ کے جانے کے تصور سے مرنے والی ہو گئی اتنی محبت نہ کرتے کہ وہ آپ سے اپنی توقعات وابستہ کر کے بیٹھ جاتی۔ آپ نے ذمہ داری لی تھی نا اس کی۔ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کو پتا ہے لاوارثوں کی طرح زمین پر بے ہوش پڑی تھی اگر کچھ ہو جاتا آپ ساری عمر پچھتاتے۔“ دراب بالکل خاموش تھا۔ فیروز نے بھی اس کی حمایت نہیں کی۔

”کیا غلطی ہے س کی کہ اس نے چھپایا کہ تابش آیا تھا۔ اس کی وجہ بھی وہ آپ کو بتائے گی فی الحال آپ اس پردے کے پیچھے چھپ جائیں، میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔“ فیروز اور دراب نے ناگہی سے اسے دیکھا، لیکن وہ اندر چلی گئی تھی دراب نے پردے کی اوٹ سے دیکھا اس کو ڈرپ لگی تھی اور کل اس کا چہرہ کتنا دمک رہا تھا اب بالکل سفید پڑا تھا۔ دراب نے ہونٹ بھیج لیے۔ اسی لمحے اس نے تابش کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ فیروز اور دراب نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔

”کیا ہوا جب کو۔“ وہ اچانک اسے یوں دیکھ کر حیران ہوا۔

”میں نے تمہیں فون کیا تھا، جب نے مجھے تمہیں بلانے کو کہا تھا۔“ نادیہ نے جواب دیا۔ فیروز نے دراب کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سختی سے بند تھے۔

”جب! دیکھو کون آیا ہے۔“ نادیہ نے اس کے کان کے پاس جا کر کہا۔

”دراب۔“ وہ بند آنکھوں کے ساتھ بولی۔

”آنکھیں کھولو۔“ نادیہ نے اس کا چہرہ زور سے تھپتھپایا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔

”جب! میں ہوں تابش، کیا ہوا تمہیں؟“ جب نے حیرت سے اسے دیکھا دراب کی دھڑکن تیز چلنے لگی تھی۔

”اٹھو نہیں۔“ جب کو اٹھتے دیکھ کر تابش نے روکنا چاہا۔

”ہاتھ مت لگاؤ گھٹیا ذلیل انسان۔“ وہ ایک دم پیچ کر بولی۔ تابش کے ساتھ دراب اور فیروز بھی دنگ رہ گئے۔ وہ بمشکل اٹھی تھی۔ اس کا سفید چہرہ یک لخت سرخ پڑ گیا تھا۔

”کیا بکو اس کی تھی تم نے دراب سے میرے بارے

پر اسے آج تک وہ محبت محسوس کیوں نہیں ہوئی۔ وہ کیوں میری محبت کو احسان سمجھتی ہے۔ ایک رشتے میں میں ساری محبتیں ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے ایک محبت بھی نہیں مل رہی۔ کیا محبت پر میرا حق نہیں۔ پہلی نظر میں جو شدت مجھے اس کے اندر نظر آئی تھی اس نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ شدت میرے لیے کیوں نہیں اس کے پار میں۔“

”دراب! یا گل وہ تمہیں بہت چاہتی ہیں۔“ فیروز کا فون پھینچ اٹھا۔ اور آنے والا فون جبہ کا تھا۔

”یہ پندرہ منٹ میں دسواں فون ہے بھابھی کا جن کو محبت نہیں ہوتی وہ یوں رو کر بے چین ہو کر فون نہیں کرتے تم ذرا سنو وہ کیسے رو رہی ہیں۔“ دراب کچھ نہیں بولا فیروز نے فون آن کر کے اسپیکر بھی آن کر دیا۔

”ہیلو فیروز بھائی پتا چلا وہ کہاں ہیں وہ؟ ٹھیک ہیں نا۔“ وہ رو رہی تھی دراب نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔

”بھابھی آپ فکر نہ کریں وہ ٹھیک ہے۔“

”فیروز بھائی! ان سے کہیں مجھے صفائی کا موقع تو دیں میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کا میں جواب نہ دے سکوں، لیکن اگر انہیں لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں انہیں کہیں گھر واپس آجائیں میں اکیلی ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔“

اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فیروز پریشان ہو گیا دراب بھی بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔

”تم نے کہا تھا نا اس لڑکی میں بڑی انا ہے غلطی پر بھی معافی نہیں مانگتی اور آج وہ بے تصور ہو کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہے۔ صرف محبت کی وجہ سے محبت میں انا نہیں ہوتی اب گھر چلو اس سے پہلے وہ کچھ کر لے اور تم پچھتاتے رہو۔“ فیروز نے دراب کو غصے سے دیکھا تھا۔



”کس کا فون تھا۔“

”بھابھی کی دوست نادیہ کا۔“

”کیوں؟“ وہ پریشان ہو کر بولا۔

”ان کا بی بی بہت لو ہو گیا ہے وہ ان کو اسپتال لے کر جا رہی ہے۔“ دراب ایک دم خاموش ہو گیا۔

وہ اسپتال پہنچے تو نادیہ کا ریڈور میں نسل رہی تھی تیزی سے بڑھتے دراب کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ نادیہ نے

میں۔ ”تابش تو اس کا انداز دیکھ کر ہکا کر رہ گیا۔

”جو کہنا تھا میرے سامنے کہتے۔ میری پیٹھ پیچھے میرے شوہر سے میرے خلاف باتیں کرتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری اس حرکت سے دراب کا مجھ پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ہماری محبت کم ہو جائے گی۔“

”اگر ایسا نہیں تو تم یہاں کیوں ہو؟ وہ تمہارا عاشق کہاں ہے۔“ تابش نے جیسے اس کے غصے کا مزہ لیا تھا۔

”ایسا کچھ نہیں جیسا تم نے چاہا تھا۔ میں تو اس لمحے کی شکر گزار ہوں جب دراب میری زندگی میں داخل ہوئے“ میں اپنے باپ کی احسان مند ہوں جنہوں نے دنیا کا بہترین انسان میرے لیے پسند کیا۔ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں کیونکہ میں دراب کی بیوی ہوں۔ دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ میری سوچ دراب نے غلط ثابت کی ہے۔ محبت ہوتی ہے سب کچھ، تمہیں کیا لگتا ہے مجبوری میں یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ محبت کرتی ہوں میں اپنے شوہر سے بے انتہا۔ سمجھے۔“ کہنے کے ساتھ اس نے ڈرپ والی سوتی کھینچ دی۔ خون کی تیز دھار نکلی تھی۔

”حب! کیا کر رہی ہو۔“ نادیا گھبرا کر آگے ہوئی جبکہ فیروز نے دراب کا بازو مضبوطی سے پکڑا جو بے چین ہو کر باہر نکلنے لگا تھا۔

”تم نے مجھے سمجھا کیا تھا۔“ وہ پوری آنکھیں کھول کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کھینچ کر ایک ٹھنڈے پھنڈے کے گال پر مارا وہ ہکا بکا رہ گیا۔

”بھول گئے میں کیا ہوں۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی اور جو میرے اور میرے شوہر کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا اس کی میں ہستی مٹا کر رکھ دوں گی۔“ دوسرا ٹھنڈے پھنڈے سے بھی زیادہ زور سے اس نے مارا تھا اس میں پتا نہیں اتنی طاقت کیسے آگئی تھی۔

”جو اب تمہیں مل گیا آئندہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔“ اس نے مڑ کر میز سے قینچی اٹھالی۔

”یہ تمہارے جسم کے آر پار ہو گئی۔“

”پاگل ہو تم شروع سے میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔“

تابش نے دوڑ لگا دی تھی جبکہ حبہ کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔

”کیا ہو گیا ہے حبہ! کول ڈاؤن۔“

”نہیں ہو رہا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ دراب کو

بلاؤ۔ میں ان سے فائل بات کر لوں۔“

”تم لیٹ جاؤ حبہ۔“

”نہیں نادیا! مجھے گھر لے چلو۔“

”چلتے ہیں یہاں یہ خون تو بند ہو۔“ وہ جھنجلا کر بولی اس نے پردے کے پیچھے جھانکا وہ دونوں جاچکے تھے نادیا کو حیرت ہوئی سب سن کر بھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔

”بھابھی کے پاس چلو۔“

”نہیں۔“ دراب تیزی سے بولا۔

”دیکھ نہیں رہے وہ کتنی پریشان ہیں اب تو سب کلیئر ہو گیا وہ تو جانتی بھی نہیں تھی تم وہاں ہو۔“

”تم نے دیکھا نہیں غصے میں وہ کیسی ہو جاتی ہے اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا، نہیں مجھے اس کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا ہے۔“ فیروز قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔

”تسم سے چوہے لگ رہے ہو۔“

”جو بھی کہہ لو۔“ دراب کو لگا وہ بہت عرصے بعد مسکرایا ہے۔

”نادیا سے رابطے میں رہنا پڑے گا۔“ وہ فیروز سے کہہ رہا تھا۔



”یار! کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی۔“ نادیا جھنجلا کر بولی۔ اسے حبہ کی فکر تھی جو کب سے کھڑی تھی حبہ نے غور سے اس ٹیکسی کو دیکھا یہ نمبر تو اسے زبانی یاد تھا۔

”نادیا دراب۔“ وہ ایک دم خوشی سے بولی۔

”رکھو حبہ۔“ نادیا نے اسے نوکا جو پاگلوں کی طرح ٹیکسی کی طرف بھاگی تھی اور پیچھے پیچھے نادیا تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بوڑھے آدمی کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔

”بچی بیٹا! کدھر جانا ہے۔“ وہ اٹنے پاؤں پلٹی تھی نادیا آگے بڑھی۔

”یہ۔ ٹیکسی کا ڈرائیور کہاں ہے۔“

”جی میں ہی ہوں۔“ وہ بوڑھا حیران ہو کر بولا۔

”کیا یہ ٹیکسی دراب کی نہیں۔“ حبہ نے پوچھا۔

”نہیں بیٹا! میں تیس سالوں سے یہ ٹیکسی چلا رہا ہوں۔“ حبہ کو ایک دم چکر آیا تھا اگر نادیا اسے نہ تھامتھی تو وہ یقیناً گر جاتی۔

”سب ٹھیک تو ہے نا۔“ وہ ٹیکسی ڈرائیور پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔

”انکل! کیا آپ نے کبھی ہاس لڑکے کو یہ گاڑی ریسنٹ پر دی تھی۔“ نادیا نے جلدی سے جبہ کا موبائل نکال کر دراب کی تصویر دکھائی۔

”یہ۔“ وہ بوڑھا مسکرا کر بولا۔ ”بیٹا! یہ تو کوئی بہت بڑا صاحب ہے اس کی گاڑی سے کچھ ماہ پہلے میری ٹیکسی کا ایک سیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بڑی مدد کی اس نے یہ میری ٹیکسی کچھ گھنٹوں کے لیے لے جاتا تھا بدلے میں دس ہزار روپے تھا دن کے بڑا نیک لڑکے اب ٹیکسی تو نہیں لیتا پر میرے بچوں کی فیس دیتا ہے پر تم لوگ کیوں پوچھ رہی ہو۔“

”آپ جانتے ہیں یہ کہاں رہتا ہے۔“ جبہ کے سارے آنسو گھگھگھ گئے تھے جبکہ نادیا تو شاکڈرہ گئی تھی۔

”گھر کا تو نہیں پر آفس کا پتا ہے۔“

”آپ ہمیں لے کر جاسکتے ہیں۔“ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک نظردونوں لڑکیوں کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔

سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ جبہ کو لگتا تھا وہ اب بول نہیں سکتی جبکہ نادیا سوچ رہی تھی۔ لوگوں کے کتنے روپے ہیں۔ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے ٹیکسی رکی۔ جبہ نے سر اٹھا کر عمارت کو دیکھا۔ نادیا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔

”مجھے لگتا ہے وہ یہاں جا رہا ہے۔“ نادیا نے جبہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں مضبوطی تھی۔

”کیا مسٹر دراب یہاں کام کرتے ہیں؟“ نادیا کے سوال پر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔

”جی نہیں۔“ نادیا نے گہرا سانس لیا۔

”وہ اس کمپنی کے مالک ہیں۔“ نادیا بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی۔ اس نے جبہ کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل پتھر پلا ہو گیا تھا۔

”ہمیں ان سے ملنا ہے۔“

”آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟“ نادیا نے سرنفی میں ہلایا۔

”سوری سر بغیر اپائنٹمنٹ کے نہیں ملتے۔“

”تمہارے سر سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔“ جبہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا تو وہ لڑکی گھبرا کر گاڑی کو آواز دینے لگی۔

”جبہ پلینز سنو رکو سب دیکھ رہے ہیں تماشا بن جائے گا۔“ نادیا دھیمے انداز میں اسے سمجھاتی ہوئی اس کے پیچھے

بھاگ رہی تھی جبکہ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔

”میڈم رک جائیں۔“ تین گاڑیوں کے پیچھے تھے۔

”دراب صاحب کا آفس کہاں ہے۔“ حیران کھڑے اسٹاف میں سے اس نے ایک سے پوچھا اس نے گھبرا کر دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھی تھی پیچھے منمناتی ہوئی نادیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں موجود پانچ نفوس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا جبکہ ان میں سے دو کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔

”سوری سر! یہ میڈم زبردستی اندر آگئیں۔“ گاڑی گھبرا کر صفائی دے رہے تھے۔

”تم لوگ جاؤ۔“ فیروز نے کہا۔

”سرفراز صاحب پلینز ایکسکیوز می۔“ فیروز نے ان تین لوگوں سے معذرت کی جو حیران نظردونوں لڑکیوں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔

”آئیے بھا بھی۔“ فیروز نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا تھا۔ جبہ کی نظریں دراب پر جمی تھیں۔ سرد غصیل۔

”اس سے زیادہ بھی آپ کا کوئی روپ دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔“ جبہ نے دراب سے کہا۔

”میں پاگل تھی۔“ اس کا غصہ بے چارگی میں بدینے لگا۔ ”کھونے سے ڈر رہی تھی اپنی صفائی دے رہی تھی کس کو جو خود دھو کا ہے۔“

”جبہ۔“ دراب آگے بڑھا۔

”پلینز میں آپ کو نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور یا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک۔“

”جبہ پلینز میری بات سنو۔“

”میں نے کہا میں نہیں جانتی کون ہیں آپ۔ جبہ کو سب نے مذاق بنا دیا۔“ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی اور مڑی۔ دراب اس کے پیچھے بھاگا تھا۔

”آپ بتا تو دیتیں۔“ فیروز نے نادیا سے کہا۔

”میں کیا بتاتی سب اتنی اچانک ہوا میں تو خود حیران ہوں۔ دراب بھائی واقعی اتنے امیر ہیں۔“

فیروز نے منہ بنایا۔ ”آپ کی سوچ سے زیادہ۔“

نادیا نے بے اختیار جبہ پر رشک کیا۔

سارے اسٹاف نے باگلوں کی طرف اپنے ڈینٹ صاحب کو ایک پاگل کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔

”رک جاؤ جبہ پلینز۔“ دراب نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔

”پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔“
اس کا چہرہ اس وقت واقعی جنونی ہو رہا تھا۔
”ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔“
”میرا کوئی گھر نہیں۔“

”یہ فیصلہ تم بعد میں کرنا۔“ دراب بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس کو کھینچتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔
سوڈب کھڑا ڈرائیور حیران ہو کر دیکھنے لگا۔

”تم جاؤ میں خود ڈرائیو کروں گا۔“ اس نے دروازہ کھول کر زبردستی جبہ کو اندر دھکیلا اور خود ڈرائیو تک سیٹ پر آگیا جبہ اس کے خیال کے برعکس بالکل خاموش ہو گئی تھی۔
اس نے ہارن دیا تو بلند بلا گیٹ کھل گیا اور گاڑی ڈرائیور دے سے ہوتی ہوئی پورچ میں آکر رک گئی۔ وہ یونہی بیٹھی رہی۔ دراب نے جلدی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔

”جبہ! دیکھو ہمارا گھر آگیا۔“ وہ گم صم ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ ہارن سن کر تین چار ملازم باہر نکل آئے تھے۔
دراب نے اس کی چپ کو غنیمت جانا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو گاڑی سے اتارا۔ ایک ملازم نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ باقی حیران پریشان پیچھے پیچھے تھے۔

”زرینہ اماں! یہ آپ کی بہو ہے ابھی ناراض ہے، میں اسے منانے کے لیے لے جا رہا ہوں کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور تھوڑی دیر بعد جوس لے آئے گا غصہ کرنے کے بعد اس کو کمزوری ہو جاتی ہے۔“ سب ملازم لگتا ہے زیادہ ہی لاڈلے تھے کھی کھی کرنے لگے۔

وہ اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا اور بیڈ پر اسے بٹھا کر سب سے پہلے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔

”یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔“ اس نے شاہانہ انداز میں سجے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ جبہ نے خوشخوار نظروں سے اسے دیکھا۔

”آپ کو ذرا بھی شرم آ رہی ہے۔“
”کیا بتاؤں اس وقت مجھے تم پر کتنا پیار آ رہا ہے۔“ وہ اس کے قریب جا کر بولا۔

”دراب! میں اس وقت کسی فضول بات کے موڈ میں نہیں۔ مجھے جواب چاہیے کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کوئی اتنا بڑا ڈرامہ کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ غریب

آپ مجھے آزما تے رہے۔ آپ نے تابش کو

لے کر مجھ پر شک کیا۔ کیا میں آپ کو اتنی مٹی گزری لگتی تھی کہ شادی آپ سے کر کے دولت کے لیے کسی اور سے محبت کی پینگیں بڑھاؤں گی، میرے باپ نے بڑے نیک انداز میں میری تربیت کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے شادی سے پہلے آپ سے کچھ کڑوی باتیں کی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ میرا امتحان لیتے۔ آزمائش کا حق اللہ کے پاس ہے انسان کے پاس نہیں۔ اللہ نے تو مجھے آزمایا۔ آپ نے کیوں آزمایا۔ کیا آپ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ نے مجھے کوئی خیانت کرتے دیکھا۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کی۔ آپ کو کسی چیز کے لیے تنگ کیا۔ میں تو پہلے آپ کی احسان مند تھی پھر آپ سے محبت کرنے لگی اتنی محبت کہ مجھے لگا کہ آپ نہیں تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی، لیکن نہیں اب کئی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، کیوں لوگ امریکا، ذہنی کی بات کرتے تھے، کیسے آپ نے میرے پیپا کے علاج پر ہزاروں خرچ کیے، کیسے آپ لاکھوں کے فلیٹ میں رہتے تھے کیوں لوگ آپ کے اسٹینڈرڈ کا حوالہ دیتے تھے، کیوں لڑکیاں مری جا رہی تھیں آپ سے شادی کرنے کے لیے، میں اتنی پاگل کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اتنا اندھا اعتماد کر لیا تھا آپ پر جو آپ نے کہا میں نے وہی مانا دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ آپ نے کہا، آپ کو دکھ ہوا میں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ اتنے ماہ سے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں مجھے دھوکا نہیں دے رہے؟ تابش آیا میں نے نہیں بتایا میری غلطی تھی پر میری نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا۔ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، میں آپ کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے خود ہی سب فرض کر لیا۔ میری شرم کو آپ گریز سمجھتے تھے۔ کیا کبھی آپ کے چھونے پر میں نے بے زاری کا اظہار کیا تھا جو آپ نے اس دن مجھے اتنی بڑی بڑی باتیں بنا دیں۔“ اس کا چہرہ پوری طرح بھگ چکا تھا۔ دراب کچھ نہیں بولا وہ پوری خاموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔

”خیر ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں، آپ نے کہا تھا مجھے حق ہے کہ میں جو چاہوں فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی صرف اس لیے کہ آپ بہت امیر ہیں میں آپ کے میں قابل نہیں۔“ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ اور اسی تیزی سے دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھالیا تھا۔

”میں اگر اتنی دیر سے سب سن رہا ہوں تو اس کا مطلب

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو م ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

یہ نہیں کہ جو تم کہو گی میں مان لوں گا چھوڑنے اور جانے کی بات کرنے کا سوچنا بھی مست اور نہ تم نے ابھی میرا پاگل پن نہیں دیکھا۔ ”درا ب کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ اندر ہی اندر ڈر کر رہ گئی۔

”تمہاری ساری باتیں اتنے تحمل سے اس لیے سنی ہیں کہ زیادہ غلطی میری ہے۔ میں نے کبھی تم پر شک نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہوں۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اگر شک ہوتا تو شادی نہ کرنا مجھے صرف غصہ تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو اور اس کے بعد تابش نے جو باتیں مجھ سے کیں مجھے بس غصہ تھا اور کچھ نہیں۔“

”غصہ ہونا اور بات ہوتی ہے“ آپ نے تو مجھے سزا دی گھر سے چلے گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ ”وہ پھر رو پڑی تھی۔

”جب! میری جان۔“ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیا۔

”نہیں ہوں میں جان وان۔“ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا تھا۔

”نئے خوب بنے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ تو آرام سے تھے پاگلوں کی طرح تو میں نے رات گزاری۔ اپتال میں گئی یہ دیکھیں۔“ اس نے ڈرپ کا نشان دکھایا۔ دراب نے مسکرا کر اس کا بازو چومنا۔

”اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔“ وہ منہ پھیر کر بولی۔

”واقعی!“ دراب نے ابرو اچکا کر پوچھا اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔

”کیا ہے آپ کو۔“ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ گھبرا کر بولی۔

”اوکے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے۔“ وہ مسکرا کر بولا۔

”میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تم نے خود تصور کر لیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات ٹیکسی ڈرائیور بھی میں تمہارے لیے بنا دیکھو میرا پاگل پن۔ کروڑوں کی میٹنگ چھوڑ کر میں آوارہ لڑکوں کی طرح کلج کے باہر ہزاروں لڑکیوں میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا تھا۔ تم شاید پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتیں پر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ تمہارا انداز تمہارا تیکھا پن بہت اچھا لگا تھا مجھے پھر انکل سے ملاقات اتفاقاً ہوئی۔

میں نے جب انکل کی مدد کی میں جانتا بھی نہیں تھا وہ تمہارے پاپا ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میرے فادر کی طرف چلی گئی تھی۔

”میری مدر نے بزنس کو سنبھالا میں امریکا میں

پڑھتا تھا۔ میں کریمجویشن کر رہا تھا جب پتا چلا ماما کی کنڈیشن سیریس ہے میں سب چھوڑ کر آگیا، لیکن وہ سردا سو نہیں کر سکیں میں ہمیشہ کینسر کے مریضوں کی مدد کے لیے جاتا رہتا تھا اس دن بھی ڈاکٹر نے مجھے تمہارے پاپا کے بارے میں بتایا میں نے تو ہمیشہ کی طرح مدد کی، لیکن جس دن میں نے تمہیں دیکھا تب میں نے تمہارے لیے انکل کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے انکل سے بڑے جھجک کر اپنے دل کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے پتا ہے اس رات میں کتنا رو دیا تھا۔ تم مجھے اتنی اپنی لگنے لگی تھیں کہ تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا پھر تم نے ایک دن اتنی کڑوی باتیں کیں کہ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ تو میرا جذبہ اللہ کو سچا لگا، میری چاہت میں طاقت تھی اللہ نے تمہیں مجھے دے دیا، لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ تھوڑا تمہیں تنگ کرنا میرا حق بھی بنتا ہے۔ بس اس لیے تنگ کرتا تھا اور جہاں تک آزمانے کی بات ہے میں نے آزمایا نہیں صرف تم سے اپنی اصلیت چھپائی۔ باقی تمہارے ساتھ میں جیسا ہوں، میری اصلیت وہی ہے۔ میری محبت میں کوئی دوہرا پن نہیں، وہ تمہارے لیے بالکل پور ہے۔ اب کچھ کہو گی نہیں۔“

اسے پونہی خاموش دیکھ کر وہ بولا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔

”مجھے پتا ہے جب میں نے تمہارا دل دکھایا ہے میں خود بھی بہت تکلیف میں رہا ہوں، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے معاف کر دو میں کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں تم جو چاہے مجھے سزا دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کے جانے کی بات مت کرنا۔“ جب نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔

”اتنی محبت۔“ اس نے گہرا سانس لے کر سوچا ”وہ اتنی خوش قسمت تھی“ وہ سر جھکا کر مسکرائی۔

”ٹھیک ہے، لیکن میں سزا ضرور دوں گی۔“ دراب نے منہ نکال لیا۔

”آپ کو جتنے مرضی پاگل پن کے دورے پڑیں، آپ اب تین دن تک میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔“

”جب۔“ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ ”یہ میں نہیں کر سکتا اب۔“ وہ ہاتھ پر بل ڈال کر بولا۔

”میں تین دن روٹی رہی ہوں۔“ اس نے جیسے یاد دلایا۔

”میں سارا حساب پورا کروں گا۔“ وہ پار سے بولا۔

”دور سے۔“ وہ کھلم کھلا کر بولتی ہوئی بیڈ کے دوسری طرف چلی گئی تھی۔